

# اصلائی خطابات

جلد ا

- \* عقل کا دائرہ کار
- \* ماهِ رب
- \* نیک کام میں دیر شکھئے
- \* سفارش شریعت کی نظر میں
- \* آزادی نسوان کافریب
- \* روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟
- \* دین کی حقیقت
- \* بدعت ایک سنگین گناہ

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مذہبی

میم امبلی پبلیشنز

غلاق

# اصلاحی خطبات

۱

جسٹ مولانا محمد تقی عثمانی رضیٰ طلبہ العالمی



مخطو و ترتیب  
میرعبداللہ شمسین

میمن اسلامک پبلیشورز

۱۹۸۱/۱- یات آباد، کراچی

## چھالہ سخن من ناشر سخنیوں

- خطبات     ♦ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم  
 ضبط و ترتیب     ♦ محمد عبد اللہ میمن صاحب  
 مقام     ♦ جامع مسجد بیت المکرم، گلشنِ اقبال، کراچی  
 اشاعت اول     ♦ مئی ۱۹۹۳ء  
 تعداد     ♦ دو ہزار  
 ناشر     ♦ میمن اسلامک پبلیشورز، فون: ۳۹۱۴۰۳۳  
 باہتمام     ♦ ولی اللہ میمن

حکومت پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر ۱۳۵۷۳

### ملنے کے پتے

- ♦ میمن اسلامک پبلیشورز، ۱۸۸-۱ لیاقت آباد، کراچی ۱۹
- ♦ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی
- ♦ ادارہ اسلامیات، ۱۹۰-۱ انارکلی، لاہور ۲
- ♦ مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۳
- ♦ ادارۃ المعارف، دارالعلوم کراچی ۱۳
- ♦ کتب خانہ مظہری، گلشنِ اقبال، کراچی
- ♦ مولانا اقبال نعمانی صاحب، آفسر کالونی گارڈن، کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## پیش لفظ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلوم العالی

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

لما بعد!

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی خیل میں احقر کی سال سے جمع کے روز  
عمر کے بعد جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سنہ والوں کے  
فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیل کے  
حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد لله احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا  
ہے، اور بفضلہ تعالیٰ سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو  
ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احقر کے معافون خصوصی مولانا عبد اللہ میں صاحب سلمہ نے کچھ عرصے  
سے احقر کے ان بیانات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیٹ تیار  
کرنے اور ان کی نشر و اشتاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم  
ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسوں کی تعداد اب غالباً سو سے زائد ہو گئی ہے۔ انہی میں سے کچھ

کیشون کی تقدیر مولانا عبد اللہ میں صاحب علمہ نے قلبند بھی فرمائیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقدیر کا ایک مجموعہ ”اصلاحی خطبات“ کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقدیر پر احرق نے نظر ملنی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقدیر میں جواحدیت آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیئے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطلع کے وقت یہ بات زہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیشون کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر محتلاً یا غیر مفید ہے، تو وہ یقیناً احرق کی کسی غلطی یا کوئی تکلف کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ، ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سائیں کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ پہ حرف ساخت سرخو شم، نہ پہ نقش بستہ مشو شم  
نفسے بیاد توی زنم، چہ عبدت وچہ معلم

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احرق کی اور تمام قدمیں کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ و آخرت مثبت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور تاثر کو بھی اس خدمت کا بہترین صد عطا فرمائیں۔ آمین۔

## ا جمالی فہرست

۲۱	(۱) عقل کا دائرہ کار
۳۵	(۲) ملارجس
۵۸	(۳) نیک کام میں دیر نہ کچھ
۸۹	(۴) سفلذش - شریعت کی نظر میں
۱۰۹	(۵) روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟
۱۳۳	(۶) آزادی نسوں کا فریب
۱۴۱	(۷) دین کی حقیقت تسلیم درضا
۱۹۹	(۸) بدعت - ایک سگنین گناہ

## تفصیلی فہرست مضمایں

### (۱) عقل کا دائرہ کار

- ۱ ..... ”بنیاد پرست“ ایک گالی بن چکی ہے
- ۲ ..... اسلامیتیشن کیوں ؟
- ۳ ..... ہمارے پاس عقل موجود ہے
- ۴ ..... کیا عقل آخری معید ہے ؟
- ۵ ..... ذرائع علم
- ۶ ..... حواس خمسہ کا دائرہ کار
- ۷ ..... دوسرا ذریعہ علم ”عقل“ ہے
- ۸ ..... عقل کا دائرہ کار
- ۹ ..... تیسرا ذریعہ علم ”وہی الہی“ ہے
- ۱۰ ..... اسلام اور سیکولر نظام میں فرق
- ۱۱ ..... وہی الہی کی ضرورت
- ۱۲ ..... عقل دھوکہ دینے والی ہے
- ۱۳ ..... بن سے نکاح خلاف عقل نہیں
- ۱۴ ..... بن اور جنسی تسکین
- ۱۵ ..... عقلی جواب ناممکن ہے
- ۱۶ ..... عقلی اعتبار سے بد اخلاقی نہیں
- ۱۷ ..... نسب کا تحفظ کوئی عقلی اصول نہیں
- ۱۸ ..... یہ بھی ہیرومن ارج کا ایک حصہ ہے ۔
- ۱۹ ..... وہی الہی سے آزادی کا نتیجہ
- ۲۰ ..... عقل کافریب

- ۲۱ ..... عقل کا ایک اور فریب  
 ۲۲ ..... عقل کی مثال  
 ۲۳ ..... اسلام اور سیکولر ازم میں فرق  
 ۲۴ ..... آزادی نگر کے علم بردار ادارے کا ماحل  
 ۲۵ ..... آج کل کا سروے  
 ۲۶ ..... کیا آزادی نگر کا نظریہ بکل مطلق ہے ؟  
 ۲۷ ..... آپ کے پاس کوئی نیاتلا معید نہیں  
 ۲۸ ..... انسان کے پاس وحی کے علاوہ کوئی معید نہیں  
 ۲۹ ..... صرف مذہب معید بن سکتا ہے  
 ۳۰ ..... ہمارے پاس اس کو روکنے کی کوئی دلیل نہیں  
 ۳۱ ..... وحی الٰہی کو حصول علم کا ذریعہ بنائیے  
 ۳۲ ..... قرآن و حدیث میں سائنس اور میکینا لوحی  
 ۳۳ ..... سائنس اور میکینا لوحی تجربہ کامیڈان ہے  
 ۳۴ ..... اسلام کے احکام میں لچک موجود ہے  
 ۳۵ ..... ان احکام میں قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گی  
 ۳۶ ..... اجتہاد کماں سے شروع ہوتا ہے  
 ۳۷ ..... خنزیر حلال ہونا چاہئے  
 ۳۸ ..... سود اور تجدت میں فرق ہے  
 ۳۹ ..... ایک تھہ  
 ۴۰ ..... موجودہ دور کے مفکر اور ان کا اجتہاد  
 ۴۱ ..... مشرق میں ہے تحلید فرنگی کا بہانہ

(۲) ماه رجب

- ۱ ..... رجب کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔

- ۲ ..... شبِ معراج کی فضیلت ثابت نہیں۔  
 ۳ ..... شبِ معراج کی تعین میں اختلاف۔  
 ۴ ..... واقعہ معراج کی تاریخ کیوں محفوظ نہیں؟  
 ۵ ..... وہ رات عظیم الشان تھی۔  
 ۶ ..... آپ کی زندگی میں ۱۸ مرتبہ شبِ معراج کی تاریخ آئی، لیکن؟  
 ۷ ..... اس کے برابر کوئی احتمال نہیں۔  
 ۸ ..... صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جانے والا کون؟  
 ۹ ..... اس رات میں عبادت کا اہتمام بدعت ہے۔  
 ۱۰ ..... ۲۷ ربیعہ کا روزہ ثابت نہیں۔  
 ۱۱ ..... حضرت فلانق اعظم اور بدعت کا سد باب۔  
 ۱۲ ..... اس رات میں جاگ کر کونسی برائی کری؟  
 ۱۳ ..... دین "اتباع" کا نام ہے۔  
 ۱۴ ..... وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے۔  
 ۱۵ ..... کونڈوں کی حقیقت۔  
 ۱۶ ..... یہ امت خرافات میں کھو گئی۔  
 ۱۷ ..... خاصہ۔

### (۳) نیک کام میں دیر نہ پہنچئے

- ۱ ..... مبادرت الی اخیرات۔  
 ۲ ..... نیکی کے کاموں میں ریس اور دوڑ لگاؤ۔  
 ۳ ..... شیطانی داؤ۔  
 ۴ ..... عمر عزیز سے فائدہ اٹھالو۔  
 ۵ ..... نیکی کا داعیہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔

- ۶ ..... فرصت کے انتظار میں مت رہو۔  
 ۷ ..... کام کرنے کا بہترین گز۔  
 ۸ ..... نیک کاموں میں ریس لگانا برا نہیں۔  
 ۹ ..... دنیا کے اسباب میں ریس لگانا جائز نہیں۔  
 ۱۰ ..... غزوہ تبوک میں حضرات شیخین کائیکی میں مقابلہ۔  
 ۱۱ ..... ایک مثلی معاملہ  
 ۱۲ ..... ہمارے لئے نجٹ اسکر۔  
 ۱۳ ..... حضرت عبد اللہ بن مبدک نے کس طرح راحت حاصل کی؟  
 ۱۴ ..... ورنہ کبھی قاعبت حاصل نہیں ہوگی۔  
 ۱۵ ..... مال دولت کے ذریعہ راحت نہیں خریدی جا سکتی۔  
 ۱۶ ..... ایسی دولت کس کام کی۔  
 ۱۷ ..... پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی۔  
 ۱۸ ..... سکون حاصل کرنے کا ذریعہ۔  
 ۱۹ ..... فتنہ کا زمانہ آنے والا ہے۔  
 ۲۰ ..... ”ایبھی تو میں جوان ہوں“ شیطانی دھوکہ ہے۔  
 ۲۱ ..... نفس کو بلا کر اس سے کام لو۔  
 ۲۲ ..... اگر اس وقت سرراہِ مملکت کا پیغام آجائے۔  
 ۲۳ ..... جنت کا سچا طلب گار۔  
 ۲۴ ..... اذان کی آواز سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔  
 ۲۵ ..... اعلیٰ درجے کا صدقہ۔  
 ۲۶ ..... وصیت ایک تہائی مل کی حد تک بند ہوتی ہے۔  
 ۲۷ ..... اپنی آمدنی کا ایک حصہ علیحدہ کر دو۔  
 ۲۸ ..... اللہ تعالیٰ کے یہاں گئتی نہیں دیکھی جاتی۔

- ۲۹ ..... میرے والد ماجد کا معمول -  
 ۳۰ ..... ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے۔  
 ۳۱ ..... کس کا انتظار کر رہے ہو؟  
 ۳۲ ..... کیا فقر کا انتظار ہے؟  
 ۳۳ ..... کیا مدداری کا انتظار ہے؟  
 ۳۴ ..... کیا بیداری کا انتظار ہے؟  
 ۳۵ ..... کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟  
 ۳۶ ..... کیا موت کا انتظار ہے؟  
 ۳۷ ..... ملک الموت سے مکالہ۔  
 ۳۸ ..... کیا دجال کا انتظار ہے؟  
 ۳۹ ..... کیا قیامت کا انتظار ہے؟

### (۲) سفارش، شریعت کی نظر میں

- ۱ ..... حاجت مند کی سفارش کر دو  
 ۲ ..... سفارش موجب اجر و ثواب ہے  
 ۳ ..... ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ  
 ۴ ..... سفارش کر کے احسان نہ جلتائے  
 ۵ ..... سفارش کے احکام  
 ۶ ..... نااہل کے لئے منصب کی سفارش  
 ۷ ..... سفارش شہادت اور گواہی ہے  
 ۸ ..... مسٹن سے سفارش کرنا  
 ۹ ..... سفارش کا ایک عجیب واقعہ  
 ۱۰ ..... مولوی کا شیطان بھی مولوی

- ۱۰۰ ..... سفلش سے منف کا ذہن خراب نہ کریں  
 ۱۰۱ ..... عدالت کے بجھ سے سفلش کرنا  
 ۱۰۲ ..... سفلش پر میرار د عمل  
 ۱۰۳ ..... بری سفلش گناہ ہے  
 ۱۰۴ ..... سفلش کا مقصد صرف توجہ دلاتا ہے  
 ۱۰۵ ..... یہ تو دباؤ ڈالنا ہے  
 ۱۰۶ ..... سفلش کے بدرے میں حضرت حکیم الامت "کافرمان  
 ۱۰۷ ..... مجمع میں چندہ کرنا درست نہیں  
 ۱۰۸ ..... مدرسہ کے مضمون کا خود چندہ کرنا  
 ۱۰۹ ..... سفلش کے الفاظ کیا ہوں ؟  
 ۱۱۰ ..... سفلش میں دونوں طرف کی رعایت  
 ۱۱۱ ..... سفلش معاشرے میں ایک لعنت  
 ۱۱۲ ..... سفلش ایک مشورہ ہے  
 ۱۱۳ ..... حضرت پریرو ٹھور حضرت مفیٹ ٹھ کا واقعہ  
 ۱۱۴ ..... باندی کو فتح نکاح کا اختیار  
 ۱۱۵ ..... حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ  
 ۱۱۶ ..... ایک خاتون نے حضور کا مشورہ رد کر دیا  
 ۱۱۷ ..... حضور نے کیوں مشورہ دیا  
 ۱۱۸ ..... امت کو سبق دے دیا  
 ۱۱۹ ..... سفلش تا گواری کا ذریعہ کیوں ہے ؟  
 ۱۲۰ ..... (۵) روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے ؟  
 ۱۲۱ ..... برکت والا ممینہ  
 ۱۲۲ ..... کیا فرشتے کافی نہیں تھے ؟

- ۳..... فرشتوں کا کوئی مکمل نہیں  
 ۴..... نایبنا کا بچتا کمال نہیں  
 ۵..... یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے  
 ۶..... حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل  
 ۷..... ہماری جانوں کا سودا ہو چکا ہے  
 ۸..... ایسے خریدار پر قریان جائیے  
 ۹..... اس ماہ میں اصل مقصد کی طرف آجائو  
 ۱۰..... "رمضان" کے معنی  
 ۱۱..... گناہ بخش والو  
 ۱۲..... اس ماہ کو فداغ کر لیں  
 ۱۳..... استقبال رمضان کا صحیح طریقہ  
 ۱۴..... روزہ اور تراویح سے ایک قدم آگئے  
 ۱۵..... ایک بمینہ اس طرح گزار لو  
 ۱۶..... یہ کیسا روزہ ہوا؟  
 ۱۷..... روزہ کا ثواب ملیا میٹھا ہو گیا  
 ۱۸..... روزہ کا مقصد تقویٰ کی شمع روشن کرنا  
 ۱۹..... روزہ تقوے کی میڑھی ہے  
 ۲۰..... میرا ملک مجھے دیکھ رہا ہے  
 ۲۱..... میں ہی اس کا بدلہ دوں گا  
 ۲۲..... ورنہ یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہو گا  
 ۲۳..... روزہ کا ایرکنڈیشن لگا دیا، لیکن؟  
 ۲۴..... اصل مقصد، حکم کی اتباع  
 ۲۵..... ہمارا حکم توڑ دیا

- ۲۶ ..... افظال میں جلدی کرو  
 ۲۷ ..... سحری میں تاخیر افضل ہے  
 ۲۸ ..... ایک ممینہ بغیر گناہ کے گزار لو  
 ۲۹ ..... اس ماہ میں رزق حلال  
 ۳۰ ..... حرام آمدی سے بچیں

### (۶) آزادی نسوں کا فریب

- ۱ ..... آج کا موضوع  
 ۲ ..... تخلیق کا مقصد خلق سے پوچھو  
 ۳ ..... مرد و عورت دو مختلف صنفیں ہیں  
 ۴ ..... اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کا ذریعہ پیغمبر ہیں  
 ۵ ..... انسانی زندگی کے دو شعبے  
 ۶ ..... مرد اور عورت کے درمیان تقسیم کار  
 ۷ ..... عورت گھر کا انتظام سنبھالے  
 ۸ ..... حضرت علی "اور حضرت فاطمہ" کے درمیان تقسیم کار  
 ۹ ..... عورت کو کس لائج پر گھر سے باہر نکلا گیا؟  
 ۱۰ ..... آج ہر گھٹیا کام عورت کے سپرد ہے  
 ۱۱ ..... خنی تہذیب کا عجیب فلسفہ  
 ۱۲ ..... کیا نصف آبادی عضو معطل ہے  
 ۱۳ ..... آج فیملی سٹم تباہ ہو چکا ہے  
 ۱۴ ..... عورت کے بارے میں "گور بچوف" کا نظریہ  
 ۱۵ ..... روپیہ پیسہ بذات خود کوئی چیز نہیں  
 ۱۶ ..... آج کاففع بخش کاروبار  
 ۱۷ ..... ایک یہودی کا عبرتاک واقعہ

- ۱۸ ..... گنتی میں اگرچہ دولت زیادہ ہو جائے گی
- ۱۹ ..... دولت کمانے کا مقصد کیا؟
- ۲۰ ..... پچھے کو مال کی ماستاکی ضرورت ہے
- ۲۱ ..... بڑے کار ناموں کی بنیاد "گھر" ہے
- ۲۲ ..... تسلیم دراحت پردے میں ہے
- ۲۳ ..... آج سروں کے بال کی حالت
- ۲۴ ..... لباس کے اندر بھی عربیاں
- ۲۵ ..... مخلوط تقریبات کا سیلاپ
- ۲۶ ..... یہ بد امنی کیوں نہ ہو؟
- ۲۷ ..... ہم اپنی اولاد کو جنم کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں
- ۲۸ ..... ابھی پانی سر سے نہیں گزرا
- ۲۹ ..... ایسے اجتماعات کا باہیکاٹ کر دو
- ۳۰ ..... دنیا والوں کا کب تک خیل کر دے
- ۳۱ ..... دنیا والوں کے بر امانے کی پرواہ مت کرو
- ۳۲ ..... ان مردوں کو باہر نکال دیا جائے
- ۳۳ ..... دین پر ڈاکر ڈالا جا رہا ہے اور پھر خاموشی!
- ۳۴ ..... ورنہ عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ
- ۳۵ ..... لپا ماہول خود بناؤ
- ۳۶ ..... آزادانہ میں جوں کے نتائج
- ۳۷ ..... جنسی خواہش کی تسلیم کا راستہ کیا ہے؟
- ۳۸ ..... ضرورت کے وقت گھر سے باہر جانے کی اجازت
- ۳۹ ..... کیا عاشر رضی اللہ عنہما کی بھی دعوت ہے؟
- ۴۰ ..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کی وجہ

- ۳۱ ..... یوں کو جائز تفہیع کی بھی ضرورت ہے
- ۳۲ ..... زینب وزینت کے ساتھ نکلنا جائز نہیں
- ۳۳ ..... کیا پرده کا حکم صرف ازواج مطررات کو تھا؟
- ۳۴ ..... یہ پاکیزہ خواتین تھیں
- ۳۵ ..... پرده کا حکم تمام خواتین کو ہے
- ۳۶ ..... حالت احرام میں پرده کا طریقہ
- ۳۷ ..... ایک خاتون کا پرده کا اہتمام
- ۳۸ ..... اہل مغرب کے طعنوں سے مرعوب نہ ہوں
- ۳۹ ..... پھر بھی تیسرے درجے کے شہری رہو گے۔
- ۴۰ ..... کل ہم ان کا مدد اور ایشیں گے۔
- ۴۱ ..... عزت اسلام کو اختیار کرنے میں ہے
- ۴۲ ..... داڑھی بھی گئی اور ملازمت بھی نہ ملی
- ۴۳ ..... چڑھ کا بھی پرده ہے
- ۴۴ ..... مردوں کی عقولوں پر پرده پڑ گیا

### (۷) دین کی حقیقت، تسلیم و رضا

- ۱ ..... بیماری اور سفر میں نیک اعمال کا لکھا جانا
- ۲ ..... نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔
- ۳ ..... بیماری میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں
- ۴ ..... اپنی پسند کو چھوڑ دو۔
- ۵ ..... آسانی اختیار کرنا مست ہے۔
- ۶ ..... دین اتباع کا نام ہے
- ۷ ..... اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری مت دکھاؤ

- ۸ ..... انسان کا اعلیٰ ترین مقام  
 ۹ ..... تو زنا ہے حسن کا پندرار کیا؟  
 ۱۰ ..... رمضان کا دن لوٹ آئے گا  
 ۱۱ ..... اللہ تعالیٰ نوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں  
 ۱۲ ..... دینِ تسلیم درضا کے مساوا کچھ نہیں  
 ۱۳ ..... سیلداری میں معمولات کا چھوٹا  
 ۱۴ ..... وقت کا تقاضہ دیکھو  
 ۱۵ ..... اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں  
 ۱۶ ..... مفتی بننے کا شوق  
 ۱۷ ..... تبلیغ کرنے کا شوق  
 ۱۸ ..... مسجد میں جانے کا شوق  
 ۱۹ ..... ساگن وہ جسے پیا چاہے  
 ۲۰ ..... بندہ دو عالم سے خفایمرے لئے  
 ۲۱ ..... اذان کے وقت ذکر چھوڑ دو  
 ۲۲ ..... جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔  
 ۲۳ ..... نماز اپنی ذات میں مقصود نہیں  
 ۲۴ ..... افظال میں جلدی کیوں؟  
 ۲۵ ..... سحری میں تاخیر کیوں؟  
 ۲۶ ..... بندہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا  
 ۲۷ ..... بتاؤ! یہ کام کیوں کر رہے ہو؟  
 ۲۸ ..... حضرت اولیس قریٰ رحمة اللہ علیہ  
 ۲۹ ..... تمام بدعتات کی جڑ  
 ۳۰ ..... اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو

- ۳۱ ..... شکر کی اہمیت اور اس کا طریقہ  
 ۳۲ ..... شیطان کا اہم داؤ۔۔۔۔۔ ناشکری پیدا کرنا  
 ۳۳ ..... شیطانی داؤ کا توز۔۔۔۔۔ اداء شکر  
 ۳۴ ..... پانی خوب ٹھنڈا پیا کرو  
 ۳۵ ..... سونے سے پہلے نعمتوں پر شکر  
 ۳۶ ..... شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ  
 ۳۷ ..... بدعت ایک سنگین گناہ (۸۱)
- ۲۰۹ ..... بدعت ایک سنگین گناہ  
 ۲۱۰ ..... لفظ "جلد" اور "جبد" کے معنی  
 ۲۱۰ ..... ثوی بڑی جوڑنے والی ذات صرف ایک ہے۔  
 ۲۱۱ ..... لفظ "تہذ" کے معنی  
 ۲۱۱ ..... اللہ تعالیٰ کا کوئی نام عذاب پر دلالت نہیں کرتا  
 ۲۱۲ ..... خطبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت  
 ۲۱۳ ..... اہل عرب کا مہوس عنوان۔۔۔۔۔  
 ۲۱۳ ..... آپ کی بعثت اور قرب قیامت  
 ۲۱۴ ..... ایک اشکال کا حواب  
 ۲۱۴ ..... ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے  
 ۲۱۵ ..... بہترن کلام اور بہترن طرز زندگی  
 ۲۱۵ ..... بدعت بدترین گناہ ہے  
 ۲۱۶ ..... بدعت اعتقادی گراہی ہے  
 ۲۱۷ ..... بدعت کی سب سے بدی خرابی  
 ۲۱۷ ..... دنیا میں بھی خدہ اور آخرت میں بھی خدہ  
 ۲۱۸ ..... دین تم ہے اتباع کا  
 ۲۱۹ ..... ایک عجیب واقع  
 ۲۲۱ ..... ایک بزرگ کا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا

- ۲۰۔ نماز میں آنکھ بند کرنے کا حکم  
 ۲۱۔ نماز میں وسلوس اور خیلات  
 ۲۲۔ بدعت کی صحیح تعریف اور تشریع  
 ۲۳۔ میت کے گمراہ میں کھالا بنا کر بھیجو  
 ۲۴۔ آجکل کی اٹی گنگا  
 ۲۵۔ دین کا حصہ بنانا بدعت ہے  
 ۲۶۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بدعت سے بچا گئی  
 ۲۷۔ قیامت اور بدعت دو کوں ڈر لئے کی چیزیں ہیں  
 ۲۸۔ ۶۷ سے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ کون؟  
 ۲۹۔ صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب کمال سے آیا؟  
 ۳۰۔ بدعت کیا ہے؟  
 ۳۱۔ بدعت کے لغوی معنی۔  
 ۳۲۔ شریعت کی دی ہوئی آزادی کو کسی قید کا پابند نہ ہے جائز نہیں  
 ۳۳۔ ایصال ثواب کا طریقہ  
 ۳۴۔ کتب تصنیف کر کے اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں  
 ۳۵۔ تیراد ان لازم کر لیتا بدعت ہے  
 ۳۶۔ جمع کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت فرمادی  
 ۳۷۔ تیجہ، دسوال، چالیسوال کیا ہیں؟  
 ۳۸۔ انکوئے چونا کیوں بدعت ہے؟  
 ۳۹۔ "یار ولی اللہ" کتاب کب بدعت ہے؟  
 ۴۰۔ عمل کا ذرا سافر ق  
 ۴۱۔ عید کے روز گلے ملنا کب بدعت ہے؟  
 ۴۲۔ کیا "تبلیغی نصب" پڑھنا بدعت ہے؟  
 ۴۳۔ سیرت کے بیان کے لئے خاص طریقہ مقرر کرنا  
 ۴۴۔ درود شریف پڑھنا بھی بدعت بن جائے گا  
 ۴۵۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے سنت نہیں قراردے سکتی

# عقل کا دائرہ کار

جسٹر مولانا محمد تقی عثمانی رضوی طلبہم العالمی



صیطوط ترتیب  
محمد عبد الدین

میمن اسلامک پبلیشرز

۱۸۸ / ۱ - میات آباد، کراچی



# عقل کا دائرہ کار

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام  
علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد۔

مرے لئے اس اکیڈمی کے مختلف تربیتی کورسوں میں حاضری کا یہ پہلا موقع نہیں  
ہے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی جو تربیتی کورس منعقد ہوتے رہے ہیں۔ ان سے بھی خطاب  
کرنے کا موقع ملا۔ اس مرتبہ مجھے سے یہ فرمائش کی گئی کہ میں "اسلامیزیشن آف لاز"  
(ISLAMISATION OF LAWS) کے سلسلے میں آپ حضرات سے کچھ گفتگوں کروں۔  
اتفاق سے "اسلامیزیشن آف لاز" کا موضوع بڑا طویل اور ہمہ کیر ہے اور مجھے اس  
وقت ایک لور جگہ بھی جلا ہے۔ اس لئے وقت بھی مختصر ہے۔ لیکن اس مختصر سے وقت  
میں "اسلامیزیشن آف لاز" کے صرف ایک پہلوگی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول  
کرنا چاہتا ہوں۔

## ”بنیاد پرست“ ایک مکالی بن چکی ہے۔

جب یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ ہمارا قانون، ہماری معاشرت، ہماری سیاست یا ہماری زندگی کا ہر پہلو اسلام کے ساتھے میں ڈھلانا چاہئے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ڈھلانا چاہئے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ سوال اس لئے پیدا ہوا کہ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں یکور تصورات (Secular Ideas) اس دنیا کے دل و مرغ پر چھائے ہوئے ہیں اور یہ بات تقریباً سلسلہ ملن لی گئی ہے کہ کسی ریاست کو چلانے کا بہترین سٹم یکور سٹم (SECULAR SYSTEM) ہے اور اسی یکور ازم (Secularism) کے دائرے میں رہتے ہوئے ریاست کو کامیابی کے ساتھ چلا یا جاسکتا ہے۔ ایسے ماحول میں جہل دنیا کی پیشتر ریاستیں بڑی سے لے کر چھوٹی تک، وہ نہ صرف یہ کہ یکور (Secular) ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں بلکہ اس پر فخر بھی کرتی ہیں۔ ایسے معاشرے میں یہ آواز بلند کرنا کہ ”ہم اپنے ملک کو، اپنے قانون کو اپنی معاشرت اور سیاست کو، اپنی زندگی کے ہر شعبے کو اسلامائز (Islamize) کرنا چاہئے“ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ معاشرے کو چودہ سو سال پرانے اصولوں کے ماتحت چلانا چاہئے تو یہ آواز آج کی اس دنیا میں اچنہ ہی اور اجنبی معلوم ہوتی ہے اور اس کو طرح طرح کے طعنوں سے نوازا جاتا ہے۔ بنیاد پرستی اور فنڈا میٹھل ازم (Fundamentalism) کی اصطلاح ان لوگوں کی طرف سے ایک مکالی بنایا کر دنیا میں مشور کر دی گئی ہے۔ اور ان کی نظر میں ہر وہ شخص بنیاد پرست (Fundamentalist) ہے جو یہ کہ کہ ”ریاست کا نظام دین کے تابع ہونا چاہئے۔ اسلام کے تابع ہونا چاہئے۔“ ایسے شخص کو بنیاد پرست کا خطاب دے کر بد ہم کیا جدھا ہے، حالانکہ اگر اس لفظ کے اصل معنی پر غور کیا جائے تو یہ کوئی بر الفاظ نہیں تھا۔ فنڈا میٹھلیٹ کے معنی یہ ہیں کہ جو بنیادی اصولوں (Fundamental Principles) کو اختیار کرے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو مکالی بنایا کر مشور کر دیا ہے۔

## اسلامائزیشن کیوں؟

آج کی مجلس میں، میں صرف اس سوال کا جواب دینا پڑتا ہوں کہ ہم کیا اپنی زندگی کو اسلامائز (ISLAMIZE) کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہم مکمل قوانین کو اسلام کے

سچے میں کیوں ڈھلانا چاہتے ہیں؟ جبکہ دین کی تعلیمات چودہ سو سال بلکہ بیشتر تو ہزار ہا سل پر انی ہیں۔

## ہمارے پاس عقل موجود ہے

اس سلطے میں، میں جس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سیکولر ریاست (SEGULAR STATE) جس کو لادینی ریاست کہا جائے۔ وہ اپنے نظام حکومت اور نظام زندگی کو کس طرز چلائے؟ اس کے لئے اس کے پاس کوئی اصول موجود نہیں ہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس عقل موجود ہے۔ ہمارے پاس مشاہدہ اور تجربہ موجود ہے اس عقل، مشاہدہ اور تجربے کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اس دور کی ضروریات کیا ہیں؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اور پھر اس کے لحاظ سے کیا چیز ہماری مصلحت کے مطابق ہے؟ اور پھر اسی مصلحت کے مطابق ہم اپنے قوانین کو ڈھال سکتے ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات میں ہم اس کے اندر تبدیلی لاسکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔

## کیا عقل آخری معیار ہے؟

ایک سیکولر نظام حکومت میں عقل، تجربے اور مشاہدے کو آخری معیار قرار دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معیار کتنا مفبوط ہے؟ کیا یہ معیار اس لائق ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کر سکے؟ کیا یہ معیار تنا عقل کے بھروسے پر، تھما مشاہدے اور تجربے کے بھروسے پر ہمارے لئے کافی ہو سکتا ہے؟

## ذرائع علم

اس کے جواب کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ کوئی بھی نظام جب تک اپنی پشت پر اپنے پیچھے علمی حقائق کا سر ملیے نہ رکھتا ہو اس وقت تک وہ کامیابی سے نہیں چل سکتا۔ اور کسی بھی معاملے میں علم حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ ان ذرائع میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے۔ اس دائرہ میں تک وہ

ذریعہ کام رتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے آگے وہ ذریعہ کام نہیں رتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔

### حوالہ خمسہ کا دائرہ کار

مثلاً کے طور پر انسان کو سب سے پہلے جو ذرائع علم عطا ہوئے وہ اس کے حوالہ خمسہ ہیں، آنکھ، کان، ناک اور زبان وغیرہ۔ آنکھ کے ذریعہ دیکھ کر بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ زبان کے ذریعہ چکھ کر علم حاصل ہوتا ہے۔ ناک کے ذریعہ سوچنے کر علم حاصل ہوتا ہے۔ ہاتھ کے ذریعہ چھو کر حاصل ہوتا ہے۔ لیکن علم کے یہ پانچ ذرائع جو مشاہدے کی سرحد میں آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے۔ اس دائرہ کار سے باہر وہ ذریعہ کام نہیں کرتا، آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن سن نہیں سکتی کان سن سکتا ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ ناک سوچنے سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں آنکھ تو بند کر لوں اور کان سے دیکھنا شروع کر دوں تو اس شخص کو ساری دنیا حق کے گی۔ اس لئے کہ کان اس کام کے لئے نہیں بنایا گیا۔ اگر کوئی شخص اس سے کے کہ تمہارا کان نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے کان سے دیکھنے کی تماری کو شش بالکل بیکار ہے۔ جواب میں وہ شخص کے کہ اگر کان دیکھ نہیں سکتا تو وہ بیکار چیز ہے تو اس کو ساری دنیا حق کے گی۔ اس لئے کہ وہ اتنی بات بھی نہیں جانتا کہ کان کا ایک دائرہ کار ہے، اس حد تک وہ کام کرے گا۔ اس سے اگر آنکھ کا کام لینا چاہو تو وہ نہیں کرے گا۔

### دوسرा ذریعہ علم "عقل"

پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے حصول کے لئے یہ پانچ حوالہ عطا فرمائے ہیں۔ ایک مرحلہ پر جا کہ ان پانچوں حوالوں کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اس مرحلہ پر نہ تو آنکھ کام دیتی ہے، نہ کان کام دیتا ہے، نہ زبان کام دیتی ہے، نہ ہاتھ کام دیتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اشیا برہ راست مشاہدہ کی گرفت میں نہیں آتیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو علم کا ایک اور ذریعہ عطا فرمایا ہے اور وہ ہے "عقل" جہاں پر

حوالہ خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر "عقل" کام آتی ہے، مثلاً سیرے سامنے یہ میز رکھی ہے، میں آنکھ سے دیکھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ ہاتھ سے چھوڑ کر معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ سخت لکڑی کی ہے، اور اس پر فلامیکال گاہ ہوا ہے۔ لیکن اس بات کا علم کہ یہ میزو جود میں کیسے آئی؟ یہ بات میں نہ تو آنکھ سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں، نہ کلن سے سن کر، نہ ہاتھ سے چھوڑ کر بتا سکتا ہوں۔ اس لئے کہ اس کے بننے کا عمل میرے سامنے نہیں ہوا۔ اس موقع پر میری عقل میری رہنمائی کرتی ہے کہ یہ چیز جو اتنی صاف ستھری نہیں ہوئی ہے۔ خود بخود وجود میں نہیں آسکتی۔ اس کو کسی بنا نہ والے نے بنایا ہے اور وہ بنا نے والا اپھا تجربہ کار مہر بر ہٹی (Carpenter) ہے۔ جس نے اس کو خوبصورت شکل میں بنایا ہے۔ لہذا یہ بات کہ اس کو کسی کار پینٹر نے بنایا ہے مجھے میری عقل نے بتلی۔ تو جس جگہ پر میرے حوالہ خمسہ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہاں میری عقل آئی اور اس نے میری رہنمائی کر کے ایک دوسرا علم عطا کیا۔

### عقل کا دائرہ کار

لیکن جس طرح ان پانچوں حوالہ خمسہ کا دائرہ کار لامحدود (Unlimited) نہیں تھا۔ بلکہ ایک حد پر جا کر ان کا دائرہ کار ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح عقل کا دائرہ کار (Jurisdiction) بھی لامحدود (Unlimited) نہیں ہے۔ عقل بھی ایک حد تک انسان کو کام دیتی ہے۔ ایک حد تک رہنمائی کرتی ہے۔ اس حد سے آگے کے اگر اس عقل کو استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ عقل صحیح جواب نہیں دیتی صحیح، رہنمائی نہیں کرے گی۔

### تمیاز ذریعہ علم "وَحْيُ الٰٰہِ"

حس جگہ عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک تمیاز ذریعہ علم عطا فرمایا ہے۔ اور وہ ہے "وَحْيُ الٰٰہِ" یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی اور آسمانی تعلیم۔ یہ ذریعہ علم شروع ہی اس جگہ سے ہوتا ہے جوں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جس جگہ "وَحْيُ الٰٰہِ" آتی ہے۔ اس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آنکھ کے کام کے لئے کان کو استعمال کرنا۔ کان کے کام کے

لئے آنکھ کو استعمال کرنا۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ عقل بیکار ہے، نہیں بلکہ وہ کار آمد چیز ہے، بشرطیکہ آپ کو اس کے دائرہ کار (Jurisdiction) میں استعمال کریں۔ اگر اس کے دائرہ کار سے باہر استعمال کریں گے تو یہ بالکل ایسا ہی ہو گا جیسے کوئی شخص آنکھ اور کان سے سوچنے کا کام لے۔

### اسلام اور سیکولر نظام میں فرق

اسلام اور ایک سیکولر نظام حیات میں کی فرق ہے کہ سیکولر نظام میں علم کے پہلے دو ذرائع استعمال کرنے کے بعد رک جاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے پاس علم کے حصول کا کوئی تیراز ریه نہیں ہے بلکہ ہماری آنکھ، کان، ناک ہے اور ہماری عقل ہے۔ اس سے آگے کوئی اور ذریعہ علم نہیں ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ان دونوں ذرائع کے آگے تھہارے پاس ایک اور ذریعہ علم بھی ہے اور وہ ہے ”وَحْيُ اللّٰہِ“۔

### وَحْيُ اللّٰہِ کی ضرورت

اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کا یہ دعویٰ کہ عقل کے ذریعہ سدی یا تین معلوم نہیں کی جاسکتیں، بلکہ آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے، وَحْيُ اللّٰہِ کی ضرورت ہے پیغمبروں اور رسولوں کی ضرورت ہے، آسمانی کتابوں کی ضرورت ہے۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہمارے موجودہ معاشرے میں کس حد تک درست ہے؟

### عقل دھوکہ دینے والی ہے

آج کل عقل پرستی (Rationalism) کا برازو ہے اور کما جاتا ہے کہ ہر چیز کو عقل کی میزان پر پڑھ کر اور تول کر اخیذ کریں گے لیکن عقل کے پاس کوئی ایسا لگا بندھا ضبط (Formula) اور کوئی لگا بندھا اصول (Principle) نہیں ہے، جو عالمی حقیقت (Universal Truth) رکھتا ہو۔ جس کو سدی دنیا کے انہیں تسلیم کر لیں اور اس کے ذریعہ وہ اپنے خیر و شر اور اچھائی برائی کا معید تجویز کر سکیں۔ کون سی چیز اچھی

ہے؟ کون سی چیز بری ہے؟ کون سی چیز اختیار کرنی چاہئے؟ کون سی چیز اختیار نہیں کرنی چاہئے؟ یہ فعلہ جب ہم عقل کے حوالے کرتے ہیں تو آپ تاریخ انسان کو اتنا کر دیکھ جائیئے، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس عقل نے انسان کو اتنے دھوکے دیے ہیں جس کا کوئی شکر لور حدود حلب ممکن نہیں۔ اگر عقل کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا تو انسان کمل سے کمل ہنچ جاتا ہے۔ اس کے لئے میں تاریخ سے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔

### بمن سے نکح خلاف عقل نہیں

آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے عالم اسلام میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا۔ جس کو ”باطنی فرقہ“ لور ”قرامط“ کہتے ہیں۔ اس فرقے کا ایک مشورہ لیڈر گزار ہے جس کا نام عبد اللہ بن حسن قیروانی ہے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کے ہم ایک خط لکھا ہے وہ خط بڑا دلچسپ ہے۔ جس میں اس نے اپنے پیروکاروں کو زندگی گزارنے کے لئے پدایا ہے دی ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ:

”سری سمجھ میں یہ بے عقلی کی بات نہیں آتی ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے گھر میں ایک بڑی خوبصورت، سلیقہ شعلہ لڑکی بمن کی محل میں موجود ہے اور جعل کے مزاج کو بھی سمجھتی ہے۔ اس کی نفیات سے بھی والتف ہے۔ لیکن یہ بے عقل نہیں اس بمن کا ہاتھ اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی کوپکڑا رہتا ہے۔ جس کے بدے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ نہ ہمچ ہو سکے گا یا نہیں؟ وہ حراج سے والتف ہے یا نہیں؟ اور خود اپنے لئے بعض اوقات ایک الیک لڑکی لے آتے ہیں جو حسن و جعل کے اعتبار سے بھی، سلیقہ شعلہ کے اعتبار سے بھی، حراج شناختی کے اعتبار سے بھی اس بمن کے ہم پر نہیں ہوتی۔“

سری سمجھ میں یہ بات نہیں تیک کہ اس بے عقلی کا کیا جواز ہے کہ اپنے گھر کی دولت تو دوسرے کے ہاتھ میں دے دے۔ اور اپنے پاس ایک الیک چیز لے آئے جو اس کو پوری راحت و آرام نہ دے۔ یہ بے عقلی ہے۔ عقل کے خلاف ہے میں اپنے پیروکاروں کو صحت کرتا ہوں کہ وہ اس بے عقلی سے اعتذاب کریں لور اپنے گھر کی دولت کو گھر بھی میں رکھیں۔ (الفرقہ بنین)

الفق للبغدادی ص ۲۹۷۔ دیکن مذہب ابا طنیہ للدیلی، ص ۸۱)

## بُن اور جنسی تسلیم

اور دوسری جگہ عبید اللہ بن حسن قیروان مقتول کی بنیاد پر اپنے پیروں کو یہ پیغام  
دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ:

”یہ کیا وجہ ہے کہ جب ایک بُن اپنے بھل کے لئے کھلا پا سکتی ہے،  
اس کی بھوک دور کر سکتی ہے، اس کی راحت کے لئے اس کے کپڑے سنوار  
سکتی ہے، اس کا بزرگ درست کر سکتی ہے تو اس کی جنسی تسلیم کا سلسلہ کیوں  
نہیں کر سکتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔“ (الفق  
بن الحنفی للبغدادی، ص ۲۹۷۔ دیکن مذہب ابا طنیہ للدیلی، ص  
(۸۱)

## عقلی جواب ناممکن ہے

آپ اس کی بات پر جتنی چاہیے لعنت بھیجیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خالص  
عقل کی بنیاد پر جو وحی الٰہی کی رہنمائی سے آزاد ہو۔ جس کو وحی الٰہی کی روشنی میراث ہو۔  
اس عقل کی بنیاد پر آپ اس کے اس استدلال کا جواب دیں۔ خالص عقل کی بنیاد پر  
قیامت تک اس کے اس استدلال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔

## عقلی اعتبار ہے بد اخلاقی نہیں

اگر کوئی شخص یہ کے کہ یہ تو بڑی بد اخلاقی کی بات ہے، بڑی گھنٹوئی بات ہے تو  
اس کا جواب موجود ہے کہ یہ بد اخلاقی اور گھنٹوئی سب ماحول کے پیدا کردہ تصورات  
ہیں۔ آپ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔  
اس لئے آپ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ورنہ عقلی اعتبار سے کوئی عیوب نہیں۔

## نسب کا تحفظ کوئی عقلی اصول نہیں

اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حسب و نسب کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے تو اس  
کا جواب موجود ہے کہ نبیوں کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے تو ہونے دو۔ اس میں کیا برائی

ہے؟ نب کا تحفظ کون سالیا عقلی اصول ہے کہ اس کی وجہ سے نب کا تحفظ ضرور کیا جائے۔

یہ بھی ہیومن ارج (Human Urge) کا حصہ ہے۔

اگر آپ اس استدلال کے جواب میں یہ کہیں کہ اس سے طبقی طور پر نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ اب یہ تصورات سامنے آئے ہیں کہ اسلناذ بلا قدب (Incest) سے طبقی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔

لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج مغربی دنیا میں اس موضوع پر کتابیں آری ہیں کہ اسلناذ بلا قدب (Incest) انسان کی نظری خواہش (HUMAN URGE) کا ایک حصہ ہے۔ لور اس کے جو طبقی نقصانات پیان کئے جاتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ وہی نعروہ جو آج سے آٹھ سو سال پہلے عبید اللہ بن حسن قیروان نے لگایا تھا۔ اس کی نہ صرف صدائے بازگشت بلکہ آج مغربی ملکوں میں اس پر کسی طرح عمل ہو رہا ہے۔

## وہی الٰہی سے آزادی کا نتیجہ

یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے کہ عقل کو اس جگہ استیل کیا جا رہا ہے جو عقل کے وائزہ کار (Jurisdiction) میں نہیں ہے۔ جمل وہی الٰہی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور عقل کو وہی الٰہی کی رہنمائی سے آزاد کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہم جنس پرستی (Sexuality) کے جواز کا بیل تالیوں کی گونی میں منظور کر رہی ہے۔

اور اب تو باقاعدہ یہ ایک علم بن گیا ہے۔ میں ایک مرتبہ اتفاق سے نویارک کے ایک کتب خانہ میں گیا۔ وہاں پر پورا ایک علیحدہ سیکشن تھا جس پر یہ عنوان لگا ہوا تھا کہ ”گے اسٹائل آف لائف“ (GAY STYLE OF LIFE) تو اس موضوع پر کتبوں کا ایک ذخیرہ آپکا ہے اور باقاعدہ ان کی ابھینیں ہیں۔ ان کے گروپ اور جماعتیں ہیں، اور وہ بڑے بڑے عمدوں پر فائز ہیں۔ اس زمانے میں نویارک کا میر (Mayor) بھی ایک Gay تھا۔

## عقل کافریب

پچھلے بحث کے امر کی رسالے تام کو اگر آپ انہا کر دیکھیں تو اس میں یہ خبر آئی ہے کہ ظیع کی جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں میں سے تقریباً ایک ہزار افراد کو صرف اس لئے فوج سے نکل دیا گیا کہ وہ ہم جنس پرست (Homo Sexual) تھے۔ لیکن اس لادام کے خلاف شورج ہ رہا ہے۔ مظاہرے ہو رہے ہیں مگر چندوں طرف سے یہ آوازیں انھری ہیں کہ یہ بات کہ ہم جنس پرست ہونے کی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو فوج کے عدووں سے برخاست کر دیا ہے۔ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے لور ان کو دوبارہ بھل کرنا چاہئے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ تو ایک ہیومن ارچ (Human Urge) ہے۔ اور آج (Human Urge) کا بہانہ لے کر دنیا کی ہر بری سے بری بات کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سب عقل کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ بتہ عقلی اعتدال سے اس میں کیا خرابی ہے۔ اور یہ تو صرف جنس انسانی کی بات تھی۔ اب تو بات جاؤروں، کتوں، گدوں اور گھوڑوں تک نوٹ پہنچ گئی ہے اور اس کو سچی باقاعدہ نظریہ پیلان کیا جا رہا ہے۔

## عقل کا ایک اور فریب

بات واضح کرنے کے لئے ایک اور مثال عرض کر دوں کہ یہ ائمہ بم جس کی تبلہ کلیوں سے تمام دنیا آج خوف زده اور پریشان ہے طور انتہی اسلو ہی مخفیف کے طریقے ملاش کر رہی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برلن بیکا (Encyclopaedia of Britan-nica) میں ائمہ بم پر جو مقالہ لکھا گیا ہے اس کو زرا کھوں کر دیکھیں۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں ائمہ بم کا تجربہ دو جگہ پر کیا گیا ہے۔ ایک ہیرودیس مالا اور دوسرے ناگا ملک پر، اور ان دونوں مغلات پر ائمہ بم کے ذریعہ جو بھی ہوئی اس کا ذکر تو بعد میں آگے چل کر کیا ہے، لیکن اس مقالے کو شروع یہاں سے کیا گیا ہے کہ ہیرودیس اور ناگا ملک پر جو ائمہ بم بر سارے گئے اس کے ذریعہ ایک کروڑ فوجوں کی جانش بچالی گئیں، اور ان کو موت کے منہ سے نکلا گیا۔ اور اس کی مطلق یہ لکھی ہے کہ اگر ہیرودیس اور ناگا

سلک پر بہم نہ گرائے جاتے تو پھر جنگ مسلسل جدی رہتی اور اس میں اندازہ یہ تھا کہ تقویاً ایک کروڑ انہل مرید مرجاتے۔ تو ایتم بم کا تقدیر اس طرح کرایا گیا کہ ایتم بم وہ چیز ہے جس سے ایک کروڑ انہل کی جانیں بچالی گئیں۔ یہ اس واقع کا جواز (Jus-tification) ہے جس پر سلی دنیا لخت بھیجنی ہے کہ ان ایتم بم کے ذریعہ ہیر و شیما اور ناگا سلک میں ان بچوں کی نسلیں تک تباہ کر دی گئیں۔ بے گناہوں کو ملا گیا اور یہ جواز (Justification) بھی عقل کی بنیاد پر ہے۔

لہذا کوئی بری سے بری بات اور کوئی تکین سے تکین خرابی ایسی نہیں ہے جس کے لئے عقل کوئی نہ کوئی دلیل اور کوئی نہ کوئی جواز فراہم نہ کر دے۔

آج سلی دنیا فاشزم (Fascism) پر لعنت بمحض رعنی ہے لور سیاست کی دنیا میں ہٹلر اور مولنی کا ہام ایک محلہ بن گیا ہے۔ لیکن آپ ذرا ان کا قلقہ تو انہا کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنے فاشزم (Fascism) کو کس طرح فلسفیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ایک معمولی سمجھ کا آدمی اگر فاشزم کے فلسفے کو پڑھے گا تو اسے اعتراض ہونے لگے گا کہ بات تو سمجھ میں آتی ہے معقول بات ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ عقل ان کو اس طرف لے جاری ہے ..... بھر جا! دنیا کی کوئی بد سے بدتر برائی ایسی نہیں ہے جس کو عقل کی دلیل کی بنیاد پر صحیح تسلیم کرنے کی کوشش نہ کی جاتی ہو۔ اس لئے کہ عقل کو اس جگہ استعمال کیا جا رہا ہے جمل اس کے استعمال کی جگہ نہیں ہے۔

## عقل کی مثال

علامہ ابن خلدون جو بست بڑے مؤرخ اور فلسفی گزرے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہل کو جو عقل دی ہے وہ بڑی کام کی چیز ہے۔ لیکن یہ اسی وقت تک کام کی چیز ہے جب اس کو اس کے دائرے میں استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر اس کو اس کے دائرہ سے باہر استعمال کرو گے تو یہ کام نہیں دے گی اور پھر اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ عقل کی مثل ایسی ہے جیسے سوتا تو نئے کا کائن۔ وہ کائن اچند گرام سوتا تو لیتا ہے اور بس اس حد تک وہ کام رہتا ہے۔ لور وہ صرف سوتا تو نئے کے لئے بنا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کائنے میں پہاڑ تو ناچاہے گا تو اس کے نتیجے میں وہ کائن اٹوٹ

جائے گا اور جب پہاڑ تو نے کے نتیجے میں وہ ٹوٹ جائے تو اگر کوئی محض کے کہ یہ کاشا تو بیکھ چیز ہے، اس لئے کہ اس سے پہاڑ تو ملتا نہیں ہے۔ اس نے تو کانے کو توڑ دیا تو اسے سدی دنیا احتمق کئے گی۔

بات دراصل یہ ہے کہ اس نے کانے کو غلط جگہ پر استعمال کیا اور غلط کام میں استعمال کیا اس لئے وہ کاشا ٹوٹ گیا۔ (مقدمہ ابن خلدون، بحث علم کلام، ص (۲۴۰)

## اسلام اور سیکولر ازم میں فرق

اسلام اور سیکولر ازم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیشک تم عقل کو استعمال کرو۔ لیکن صرف اس حد تک جملہ تک وہ کام دیتی ہے۔ ایک سرحد ایسی آتی ہے جملہ عقل کام دینا چھوڑ دیتی ہے بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دیتی ہے، جسے کپیوٹر ہے۔ اگر آپ اس کام میں استعمال کریں جس کے لئے وہ بنا یا گیا ہے تو وہ فوراً جواب دے دے گا۔ لیکن جو چیز اس کپیوٹر میں فید (Feed) نہیں کی گئی۔ وہ اگر اس سے معلوم کرنا چاہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ کپیوٹر کام نہیں کرے گا، بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دے گا۔ اسی طرح جو چیز اس عقل کے اندر فید نہیں کی گئی۔ جس چیز کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تیرا ذریحہ علم عطا فرمایا ہے، جو دھی الہی ہے۔ جب وہاں عقل کو استعمال کرو گے تو یہ عقل غلط جواب دینا شروع کر دے گی۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جس کے لئے قرآن کریم آتا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَعْلَمُ بَيْنَ النَّاسِ

ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب بھیجی جس سے واقع کے موافق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ (سورہ النساء ۱۰۵)

یہ قرآن کریم آپ کو بتائے گا کہ حق کیا ہے اور باخن کیا ہے؟ یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ یہ بتائے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ یہ سب بتائیں آپ کو محض عقل کی بنیاد پر نہیں معلوم ہو سکتیں۔

## آزادی فکر کے علم بردار ادارے کا حال

ایک معروف مین الاؤای ادارہ ہے۔ جس کا نام ”ایمنسنسی انٹرنیشنل“ ہے۔ اس کا ہیڈ آفس پرس میں ہے۔ آج سے تقریباً ایک لاپسلے اس کے ایک رسرچ اسکالر سروے کرنے کے لئے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ خدا جانے کیوں وہ میرے پاس بھی اثریوپ کرنے کے لئے آگئے اور انہوں نے اُکر مجھ سے گفتگو شروع کی کہ ہمارا مقصد آزادی فکر اور حریت فکر کے لئے کام کرنا ہے۔ بت سے لوگ آزادی فکر کی وجہ سے جیلوں اور قیدوں میں بند ہیں۔ ان کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک بیا غیر متعارض موضوع ہے۔ جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہتے۔ مجھے اس لئے پاکستان بھیجا گیا کہ میں اس موضوع پر مختلف طبقوں کے خیالات معلوم کروں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا بھی مختلف اہل دانش سے تعلق ہے۔ اس لئے میں آپ سے بھی کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔

## آج کل کا سروے

میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ سروے کس مقصد سے کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مختلف حلقوں میں اس سلسلے میں کیا رائیں پائی جائیں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کراچی کب تشریف لائے؟ جواب دیا کہ آج صبح پہنچا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ واپس کب تشریف لے جائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کل صبح میں اسلام آباد جا رہا ہوں (رات کے وقت یہ ملاقات ہو رہی تھی) میں نے پوچھا اسلام آباد میں کتنے روز قیام رہے گا؟ فرمایا کہ ایک دن اسلام آباد میں رہوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ پسلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ پاکستان کے مختلف حلقوں کے خیالات کا سروے کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ رپورٹ تیار کر کے پیش کریں گے۔ آپ کا کیا خیل ہے کہ ان دو تین شروں میں دو تین دن گزارنا آپ کے لئے کافی ہو گا؟ کہنے لگے : کہ ظاہر ہے کہ تم دن میں سب کے خیالات تو معلوم نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں مختلف حلقے ہائے فکر سے مل

رہا ہوں۔ کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اسی سلسلے میں آپ کے پاس بھی آیا ہوں، آپ بھی میری کچھ رہنمائی کر دیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ نے کراچی میں کتنے لوگوں سے ملاقات کی؟ کہنے لگے میں نے پانچ آدمیوں سے ملاقات کر لی ہے، اور چھٹے آپ ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ان چھ آدمیوں کے خیالات معلوم کر کے ایک رپورٹ تیار کر دیں گے کہ کراچی والوں کے خیالات یہ ہیں۔ معرفت کیجئے مجھے آپ کے اس سروے کی سنجیدگی پر شبہ ہے اس لئے کہ تحقیقی رسمی اور سروے کا کوئی کام اس طرح نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لئے میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے سے معدور ہوں۔ اس پر وہ مذہرات کرنے لگے کہ میرے پاس وقت کم تھا۔ اس لئے صرف چند حضرات سے مل سکا ہوں۔ احتر نے عرض کیا کہ وقت کی کمی کی صورت میں سروے کا یہ کام ذمہ لینا کیا ضروری تھا؟ پھر انہوں نے اصرار شروع کر دیا کہ اگرچہ آپ کا اعتراض حق بجا ہے، لیکن میرے چند سوالات کا جواب تو آپ دے ہی دیں۔ احتر نے پھر مذہرات کی اور عرض کیا میں اس غیر سنجیدہ اور ناتمام سروے میں کسی تعلوں سے معدور ہوں۔ البتہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے اس ادارے کی بنیادی فکر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ”در اصل تو میں آپ سے سوال کرنے کے لئے آیا تھا، لیکن اگر آپ جواب نہیں دیتا چاہتے تو بیشک آپ ہمارے، ادارے کے بدلے میں جو سوال کرنا چاہیں کر لیں۔

### کیا آزادی فکر کا نظریہ بالکل مطلق (Absolute) ہے؟

میں نے ان سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ادارہ جس کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا ہے یہ آزادی فکر کا علم بردار ہے۔ بیشک یہ آزادی فکر بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی فکر آپ کی نظر میں بالکل مطلق (Absolute) ہے؟ یا اس پر کوئی پابندی بھی ہوئی چاہئے؟ کہنے لگے کہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آزادی فکر کا یہ تصور کیا اتنا اب سلوٹ (Absolute) ہے کہ جو بھی انسان کے دل میں آئے وہ دوسروں کے سامنے بر ملا کے اور اس کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے؟ مثلاً میری سوچ یہ کہتی ہے کہ سرمایہ داروں نے بت

دولت جمع کر لی ہے اس لئے غربیوں کو یہ آزادی ہوئی چاہئے کہ وہ ہم سرملیہ والروں پر ڈاکے ڈالیں اور ان کامل چیزوں لیں اور میں اپنی اسی سوچ کی تبلیغ بھی شروع کر دوں کہ غریب جا کر ڈاکے ڈالیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو۔ اس لئے کہ سرملیہ والروں نے غربیوں کا خون چوس کر کر یہ دولت جمع کی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ اس آزادی فکر کے حامی ہوں گے یا نہیں؟

### آپ کے پاس کوئی نپاٹلا معیل (Yardstick) نہیں

وہ کہنے لگے اس کے تو ہم حامی نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کہ میں یہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب آزادی فکر کا تصور بالکل اب سلوٹ (Absolute), نہیں ہے۔ تو کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ کچھ قیدیں ہوئی چاہئے؟ انہوں نے کہا کہ ہیں! کچھ قیدیں تو ہوئی چاہئے۔ مثلاً میرا خیل یہ ہے کہ آزادی فکر کو اس شرط کا پابند ہونا چاہئے کہ اس کا نتیجہ دوسروں پر تشدد (Violence) کی صورت میں ظاہر ہے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ قید تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق عائد کر دی، لیکن اگر کسی شخص کی دیانت والانہ رائے یہ ہو کہ بعض اعلیٰ مقاصد تشدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتے، اور ان اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لئے تشدد کے نقصانات برداشت کرنے چاہیں تو کیا اس کی یہ آزادی فکر قابلِ احترام ہے یا نہیں؟ دوسرے جس طرح آپ نے اپنی سوچ سے "آزادی فکر" پر ایک پابندی عائد کر دی۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرا شخص اسی قسم کی کوئی اور پابندی اپنی سوچ سے عائد کرنا چاہے تو اس کو بھی اس کا اختیار مانا چاہئے، ورنہ کوئی وجہ ہوئی چاہئے کہ آپ کی سوچ پر عمل کیا جائے اور دوسرے کی سوچ پر عمل نہ کیا جائے لہذا اصل سوال یہ ہے کہ وہ کچھ قیدیں کیا ہوئی چاہئے؟ اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ قید ہوئی چاہئے؟ اور آپ کے پاس وہ معیل کیا ہے۔ جس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آزادی فکر پر فلاں قسم کی پابندی لگائی جاسکتی ہے اور فلاں قسم کی پابندی نہیں لگائی جاسکتی؟ آپ مجھے کوئی نپاٹلا معیل (Yardstick) بتائیں۔ جس کے ذریعہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ فلاں قسم کی پابندی جائز ہے اور فلاں قسم کی پابندی ناجائز ہے۔

انہوں نے جواب دیا کہ صاحب! ہم نے اس پہاود پر کبھی باقاعدہ غور نہیں کیا،

میں نے کہا آپ اتنے بڑے علمی ادارے سے وابستہ ہیں اور اسی کام کے سروے کے لئے آپ جا رہے ہیں اور اسی کام کا بیڑہ اٹھایا ہے۔ لیکن یہ بنیادی سوال کہ آزادی فکر کی حدود کیا ہوئی چاہئیں؟ اس کا اسکوپ (Scope) کیا ہوتا چاہئے؟ اگر یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے پھر آپ کا یہ پروگرام مجھے بار آور ہوتا نظر نہیں آتا۔ براہ کرم میرے اس سوال کا جواب آپ مجھے اپنے لزیچر سے فراہم کر دیں، یادوں مرے حضرات سے مشورہ کر کے فراہم کر دیں۔

### انسان کے پاس وحی کے علاوہ کوئی معیار نہیں

کہنے لگے کہ آپ کے یہ خیالات اپنے ادارے تک پہنچاؤں گا اور اس موضوع پر جو ہمارا لزیچر ہے وہ بھی فراہم کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا پھیکا سا شکریہ او اکیا اور جلد رخصت ہو گئے۔ میں آج تک ان کے وعدے کے مطابق لزیچر یا اپنے سوال کے جواب کا منتظر ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ قیامت تک نہ سوال کا جواب فراہم کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسا معیید پیش کر سکتے ہیں جو عامگیر مقولہ (Universally Applicable) کا حال ہو۔ اس لئے کہ آپ ایک معید متعین کریں گے دوسرا شخص دوسرے معید متعین کرے گا۔ آپ کا بھی اپنے ذہن کا سوچا ہوا معید ہو گا۔ اس کا معید بھی اس کے ذہن کا سوچا ہوا ہو گا۔ اور دنیا میں کوئی شخص ایسا معید تجویز کر دے جو سلسلی دنیا کے لئے مکمل طور پر قبول ہو۔ یہ بات میں کسی تردید کے خوف کے بغیر کہ سکتا ہوں کہ واقعۃ انسان کے پاس وحی الٰہی کے سوا کوئی معید نہیں ہے جو ان بہم تصورات پر جائز حدیں قائم کرنے کا کوئی لازمی اور ابدی معید فراہم کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بدایت کے سوانح کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔

### صرف مذہب معیار بن سکتا ہے

آپ فلسفہ کو اٹھا کر دیکھئے۔ اس میں یہ مسئلہ زیو بحث آیا ہے کہ قانون کا اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ قانون میں ایک مکتب لکھ رہے جس کا یہ کہنا ہے کہ قانون کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اچھے برے کا تصور غلط ہے۔ نہ کوئی چیز اچھی ہے، نہ کوئی چیز بُری

ہے۔ وہ کہتا کہ یہ Should اور Should not Ought وغیرہ کے الفاظ در حقیقت انسان کی خواہش نفس کے پیدا کردہ ہیں۔ ورنہ اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس واسطے جو معاشرہ جس وقت جو چیز اختیار کر لے وہ اس کے لئے درست ہے۔ اور ہمارے پاس اچھائی اور براہی کے لئے کوئی معیار نہیں ہے جو یہ بتائے کہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں چیز براہی ہے۔ اور یہ اصول قانون پر مشور علیکث بک Jurisprudence ہے، اس میں اس بحث کے آخر میں ایک جملہ لکھا ہے کہ:

”انسانیت کے پاس ان چیزوں کے قیمت کے لئے ایک چیز معیار بن سکتی تھی، وہ ہے مذہب (Religion) لیکن چونکہ ریلیجن (Religion) کا تعلق انسان کی بلیف (Belief) اور عقیدے سے ہے اور یکوں نظام حیات میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس واسطے ہم اس کو ایک بنیاد کے طور پر نہیں پتا کتے۔“

## ہمارے پاس اس کو روکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے

ایک اور مثال یاد آگئی ہے جیسا کہ انہی میں نے عرض کیا تھا جس وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ہم جنس پرستی (Homo Sexuality) کا بل تالیوں کی گونج میں پاس ہوا۔ اس بل کے پاس ہونے سے پہلے کافی مخالفت بھی ہوئی اور اس بل پر غور کرنے کے لئے ایک کمینی تشكیل دی گئی جو اس مسئلہ پر غور کرے کہ آیا یہ بل پاس ہونا چاہئے یا نہیں؟ اس کمینی کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اور فریڈ مین (Fridman) کی مشہور کتاب ”دی لیگل تھیوری“ (The Legaltheory) میں اس رپورٹ کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ اس کمینی نے مددی رپورٹ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ:

”اگرچہ اس میں کوئی تک نہیں ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ لیکن چونکہ ہم ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انسان کی پر ایجویٹ نہیں میں قانون کو داخل انداز نہیں ہونا چاہئے اس لئے اس اصول کی روشنی میں جب تک ہم اس (Crime) اور کرام (Crime) میں تفریق برقرار رکھیں گے کہ سن اور چیز ہے اور کرام علیحدہ چیز ہے۔ اس وقت تک ہمارے پاس اس عمل کو روکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں! اگر سن اور کرام کو ایک تصور کر لیا جائے تو پھر بیک

اس مل کے خلاف رائے دی جا سکتی ہے۔ اس واسطے ہمارے پاس اس مل کو رد کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لئے یہ مل پاں ہو جانا چاہئے۔"

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ (Law) کو اسلام اور کیا جائے تو اس کے معنی بھی ہیں کہ یکوں نظام نے حصول علم کی جو دو بنیادیں، آنکھ، گان، ٹاک، زبان وغیرہ اور عقل اختیار کی ہنگی ہیں، اس سے آگے ایک اور قدم پڑھا کر وحی الہی کو بھی حصول علم اور رہنمائی کا ذریعہ قرار دے کر اس کو اپنا شعلہ ہائیں۔

## اس حکم کی ریزن (Reason) میری سمجھ میں نہیں آتی

اور جب یہ بات زہن میں آجائے کہ وحی الہی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جمل عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر وحی الہی کے ذریعہ قرآن و سنت میں جب کوئی حکم آجائے۔ اس کے بعد اس بناء پر اس حکم کو رد کرنا کہ صاحب اس حکم کا ریزن (Reason) میری سمجھ میں نہیں آتا تھا نہ فعل ہو گا۔ اس واسطے کہ وحی کا حکم آیا ہی اس جگہ پر ہے جمل ریزن کام نہیں دے رہی تھی۔ اگر ریزن کام دے چکی ہوتی تو پھر وحی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اس حکم کے پیچے جو حکمتیں ہیں اگر وہ سلسلی حکمتیں تمہاری عقل اور اک کر سکتی تھی تو پھر اللہ کو وحی کے ذریعہ اس کے حکم دینے کی چند اس حاجت نہیں تھی۔

## قرآن و حدیث میں سائنس اور میکنالوگی

یہیں سے ایک لور سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ جو اکثر ہمارے پڑھنے لکھنے طبقے کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ صاحب! آج سائنس اور میکنالوگی کا دور ہے۔ سلسلی دنیا سائنس اور میکنالوگی میں ترقی کر رہی ہے لیکن ہدایت قرآن اور ہدایت حدیث سائنس اور میکنالوگی کے بدلے میں کوئی فائدہ مولا ہمیں نہیں ہوتا۔ کہ کس طرح ایتم برم بھائیں، کس طرح ہائی رو جن بھائیں۔ اس کا کوئی فائدہ مولا نہ تو قرآن کریم میں ملتا ہے اور نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ احسان کرتی کاشکار ہوتے ہیں کہ صاحب! دنیا چاہند اور من رخ پر بھئی رہی ہے اور ہدایت قرآن ہمیں اس بدلے

میں کچھ نہیں بتا اکہ چاند پر کیسے پہنچیں؟

## سائنس اور میکنالوگی تجربہ کا میدان ہے

اس کا جواب یہ ہے کہ ہذا قرآن ہمیں یہ بتیں اس لئے نہیں بتا اکہ وہ دائرہ عقل کا ہے۔ وہ تجربہ کا دائرة ہے۔ وہ ذاتی منت اور کوشش کا دائرة ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کے ذاتی تجربے عقل اور کوشش پر چھوڑا ہے کہ جو شخص جتنی کوشش کرے گا اور عقل کو استعمال کرے گا، تجربہ کو استعمال کرے گا، اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن آیا ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کا دائرة ختم ہو رہا تھا۔ عقل اس کا پوری طرح اور اک نہیں کر سکتی، ان چیزوں کا ہمیں قرآن کریم نے سبق پڑھایا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی ہیں۔

لذ اسلامائزیشن آف لاز کا سدا افلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اس کے تابع بنائیں۔

## اسلام کے احکام میں لچک (Elasticity) موجود ہے

آخر میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جب اور کی بات سمجھ میں آگئی تو پھر دل میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم چودہ سو سال پرانی زندگی کو کیسے لوٹائیں؟ چودہ سو سال پرانے اصولوں کو آج کی بیسویں اور ایکسویں صدی پر کیسے اپالائی کریں؟ اس لئے کہ ہماری ضروریات نوع ب نوع ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلامی علوم سے انسیت کی وجہ سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اسلام نے اپنے احکام کے تین حصے کے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جس میں قرآن و سنت کی نص قطعی موجود ہے۔ جس میں قیام قیامت تک آنے والے حالات کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول غیر متبدل ہیں۔ زمانہ کیساعی بدلت جائے، لیکن اس میں تبدیلی نہیں آسکتی۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں احتیاد اور استنباط کی منجاش رکھی گئی ہے، اور اس میں اس درجہ کی نصوص قطعیہ نہیں ہیں جو زمانہ کے حال پر اپالائی کریں۔ اس میں اسلامی احکام کی لچک (Elasticity) موجود ہے۔ اور احکام کا تیسرا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن و سنت

خاموش ہیں۔ جن کے بارے میں کوئی ہدایت اور کوئی رہنمائی نہیں کی گئی۔ جن کے بارے میں قرآن و سنت نے کوئی حکم نہیں دیا۔ حکم کیوں نہیں دیا؟ اس لئے کہ اس کو ہماری عقل پر چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کا اتنا وسیع دائرہ ہے کہ ہر دور میں انسان اپنی عقل اور تجربہ کو استعمال کر کے اس خلی میدان (Unoccupied Area) میں ترقی کر سکتا ہے اور ہر دور کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔

## ان احکام میں قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گی

دوسرے حصہ، جس میں اجتہاد اور استنباط کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس کے اندر بھی حالات کے لحاظ سے علتوں کے بدلتے کی وجہ سے احکام کے اندر تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ البتہ پہلا حصہ بیشک بھی نہیں بدل سکتا۔ قیامت آجائے گی لیکن وہ نہیں بدلتے گا۔ اس لئے کہ وہ در حقیقت انسان کے فطرت کے اور اک پر منی ہے۔ انسان کے حالات بدل سکتے ہیں، لیکن فطرت نہیں بدل سکتی۔ اور چونکہ وہ فطرت کے اور اک پر منی ہیں اس لئے ان میں بھی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔

بہر حال! جمل تک شریعت نے ہمیں گنجائش دی ہے گنجائش کے دائرہ میں رہ کر ہم اپنی ضروریات کو پورے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔

## اجتہاد کمال سے شروع ہوتا ہے

اجتہاد کا دائرہ وہاں شروع ہوتا ہے جمل نص قطعی موجود نہ ہو۔ جمل نص موجود ہو دیاں عقل کو استعمال کر کے نصوص کے خلاف کوئی بات کمنا در حقیقت اپنے دائرہ کار (Jurisdiction) سے باہر جانے والی بات ہے اور اسی کے نتیجے میں دین کی تحریف کا راستہ کھلتا ہے۔ جس کی ایک مثل آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔

## خزیر حلال ہونا چاہئے۔

قرآن کریم میں خزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ حرمت کا حکم وحی کا حکم ہے۔ اس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا کہ صاحب! یہ کیوں حرام ہے؟ یہ عقل کو غلط جگہ پر استعمال کرنا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہاں تک کہ دیا کہ بات دراصل یہ

ہے کہ قرآن کریم نے خزر اس لئے حرام کیا تھا کہ اس زمانے میں خزر بڑے گندے تھے اور غیر پسندیدہ ماحول میں پرورش پاتے تھے اور غلطیتیں کھاتے تھے۔ اب تو خزر کے لئے بڑے ہائی جینیک فلم (Hygenic Farm) تیار کئے گئے ہیں اور بڑے صحت مندانہ طریقے سے پرورش ہوتی ہے۔ لذادہ حکم اب ختم ہونا چاہئے یہ اس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا ہے جمل وہ کام دینے سے انکار کر رہی ہے۔

## سود اور تجلدت میں کیا فرق ہے؟

اسی طرح ربا اور سود کو جب قرآن کریم نے حرام قرار دے دیا۔ بس وہ حرام ہو گیا۔ عقل میں چاہے آئے یا نہ آئے۔ دیکھئے قرآن کریم میں مشرکین عرب کا قفل نقل کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

**"إِنَّمَا الْبَيْعَ مِثْلُ التِّبَأَ"** (سورہ البقرہ: ۲۷۵)

کہ بیع بھی ربا جیسی چیز ہے۔ تجلدت اور بیع و شراء سے بھی انہیں نفع کرتا ہے اور ربا سے بھی نفع کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرق بیان نہیں کیا کہ بیع اور ربا میں یہ فرق ہے بلکہ یہ جواب دیا کہ:-

**"وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَخَرَمَ التِّبَأَ"**

بس! اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب آگے اس حکم میں تمدنے لئے چوں چراکی گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ جب اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے تو حلال ہے اور جب اللہ نے ربا کو حرام کر دیا اس لئے حرام ہے۔ اب اس کے اندر چوں چراکر نادر حقیقت عقل کو غلط جگہ پر استعمال کرنا ہے۔

## ایک واقعہ

ایک واقعہ مشہور ہے کہ ہمارا ایک ہندوستانی گویہ ایک مرتبہ حج کرنے چلا گیا۔ حج کے بعد وہ جب مدینہ شریف جا رہا تھا۔ راستے میں منزلیں ہوتی تھیں۔ ان پر رات گزارنی پڑتی تھی۔ ایک منزل پر جب رات گزارنے کے لئے ٹھہراؤ وہاں ایک عرب گویہ آیا۔ وہ بد و قسم کا عرب گویہ تھا۔ اس نے بت بھدے انداز سے سلائی جا کر گھاٹا شروع کیا۔

آواز بڑی بھدی تھی اور اس کو سلسلہ بھی صحیح بجا لانا نہیں آتا تھا جب ہندوستانی گوئے نے اس کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ آج یہ بات میری کچھ میں آگئی ہے کہ آخر فرست صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ آپ نے تو ان پدروں کا گانا سنا تھا۔ اگر آپ میرا گانا سن لیتے تو حرام قرار نہ دیتے۔ تو اس قسم کی فکر اور تھنکنگ (Thinking) ڈیولپ (Develop) ہو رہی ہے۔ جس کو اجتہاد کا ہم دیا جا رہا ہے۔ یہ فصوص قطعیہ کے اندر اپنی خواہشات نفس کو استعمال کرتا ہے۔

### آج کے مفکر کا اجتہاد

حدے ہاں ایک معروف مفکر ہیں۔ ”مفکر“ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی فیلڈ (Field) میں ”مفکر“ (Thinker) کبھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے۔

”السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَفْطَعُوا أَيْدِيهِمَا“

کہ چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔

ان مفکر صاحب نے اس آیت کی یہ تفسیر کی کہ چور سے مراد سرمایہ دار ہیں جنہوں نے بڑی بڑی صنعتیں قائم کر رکھی ہیں۔ اور ”ہاتھ“ سے مراد ان کی انڈسٹریاں (INDUSTRIES) اور ”کائٹے“ سے مراد ان کا نیشنلائزیزیشن (NATIONALIZATION) ہے، لہذا اس آیت کے معنی ہیں کہ سرمایہ داروں کی سلسلی انڈسٹریوں کو نیشنلائز کر نیا جائے اور اس طریقے سے چوری کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

### مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہلانہ

اس قسم کے اجتہادات کے بدے میں اقبل مرحوم نے کہا تھا کہ:

ز لہتادے علماء نے کم نظر  
اقداء با رفتگان محفوظ تر  
کر ایسے کم نظر لوگوں کے لہتاد سے پرانے لوگوں کی باتوں کی اقداء کرنادہ زیادہ  
محفوظ ہے۔

لیکن یہ ڈر ہے کہ یہ آوازہ تجدید  
مشرق میں ہے تعلیم فرنگی کا بلند  
بزرگ میں آج کی اس نشست سے یہ فائدہ انہماں چاہتا تھا اور شاید میں نے اپنے  
اتھقان اور اپنے وعدے سے بھی زیادہ وقت آپ حضرات کا لیا ہے۔ لیکن بت یہ ہے  
کہ جب تک "اسلامائزیشن آف لاز" کا فلسفہ ہمن میں نہ ہو، اس وقت تک مخفی  
"اسلامائزیشن آف لاز" کے لفظ کی دروبست درست کر لینے سے بات نہیں بنتی۔  
خود نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل  
دل و نگہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں  
اس نے اسلامائزیشن کا پسلاندم یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ڈکے کی  
چوٹ پر، سینہ تان کر، کسی معدنرت خواہی کے بغیر کسی سے مرعوب ہوئے بغیر یہ بت کہ  
لیکن کہ ہمارے نزدیک انسانیت کی فلاح کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف  
"اسلامائزیشن" (Islamisation) میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں۔  
اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس کی حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمادے آمین۔ و آخر  
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔



# ماهِ رجب

چند غلط فہمیوں کا ازالہ

جسٹ مولانا محمد تقی عثمانی رضوی طلبہم العالی



مشطب و ترتیب  
محمد عبید اللہ بنین

میجن اسلامک پبلیشورز

۱۸۸/۱۔ یاٹھ تباہ، کراچی

واقعہ معراج کے بعد ۱۸ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرمائے گئے، لیکن ان ۱۸ سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات میں شبِ قدر کی طرح جائیداد اور وثواب کا باعث ہے، اور نہ ہی آپ کے زمانے میں اس رات میں جانے کا اہتمام ثابت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## ماہِ رجب چند غلط فہمیوں کا زالہ

الحمد لله وكفى وسلام على عبادة الذبيت اصطفى.

اما بعد!

ماہِ رجب کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں۔ ان کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔

### رجب کا چاند دیکھ کر آپ ﷺ کا عمل

اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ:

اللّٰهُمَّ بارك لِنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبِلْغُنَارِ مَضَانَ۔

”اے اللہ! ہمارے لئے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔“

یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں، گویا کہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا اشتباق ہوتا تھا۔ یہ دعا آپ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لئے یہ دعا کرنا سنت ہے، اور اگر کسی نے شروع رب جب میں یہ دعا نہ کی ہو تو وہ اب یہ دعا کر لے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں جو عام لوگوں میں مشہور ہو گئیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔

## شب میسر کی فضیلت ثابت نہیں

مثلاً ۲۷، رب جب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب میسر ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہئے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے، کم و بیش شب میسر کی بھی وہی فضیلت بھی جاتی ہے، بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ ”شب میسر کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے“ اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص خاص طریقے مشہور کر دیئے کہ اس رات میں اتنی رکعات پڑھی جائیں، اور ہر رکعت میں فلاں فلاں خاص سورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئیں۔ خوب سمجھ لجھے: یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔

## شب میسر کی تعین میں اختلاف

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ۲۷، رب جب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میسر کی تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربيع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں میں رب جب کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا۔

ہے۔ اس لئے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ کوئی رات صحیح معجزہ میں  
مراجع کی رات نہیں۔ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میران پر تشریف ہے۔  
گئے۔

## اگر یہ فضیلت والی رات ہوتی تو اسکی تاریخ محفوظ ہوتی

اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب مراجع بھی شب قدر کی طرح کوئی  
مخصوص رات ہوتی، اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب  
قدار کے بارے میں ہیں تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ لیکن  
چونکہ شب مراجع کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور سے ۲۷ ربیع کو شب  
مراجع قرار دینا درست نہیں۔

## وہی ایک رات فضیلت والی تھی

اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ۲۷ ربیع  
یہ کو مراجع کے لئے تشریف لے گئے تھے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا،  
اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا،  
اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشنا۔ اور امت کے لئے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو  
بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں  
کیا شہر ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی ۲۷ ربیع کی شب کو حاصل  
نہیں۔

## آپ کی زندگی میں ۱۸، مرتبہ شبِ معراج کی تاریخ آئی

لیکن

پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج سن ۵، نبوی میں پیس آیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے پانچویں سال یہ شبِ معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد ۱۸، سال تک آپ دنیا میں تشریف فرمائے، لیکن ان اخبارہ سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شبِ قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جانے کا اہتمام ثابت ہے، نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔

## اس کے برابر کوئی احمق نہیں

پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سو سال تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دنیا میں موجود رہے، اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ۲۷ رجب کو خاص اہتمام کر کے منیا ہو۔ لہذا جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور جو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا، یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں (معاذ اللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

زیادہ جانتا ہوں کہ کوئی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا تو اس کے برابر کوئی احق نہیں۔

## صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ دین کو جاننے والا کون؟

لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ اور تن تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھتا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے، وہ دین کی فہم نہیں رکھتا۔

## اس رات میں عبادت کا اہتمام بدعت ہے

لہذا اس رات میں عبادت کے لئے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس عبادت کی توفیق دے دیں وہ بہتر ہی بہتر ہے، لہذا آج کی رات بھی جاگ لیں، کل کی رات بھی جاگ لیں، اسی طرح پھر ستائیسیوں رات کو بھی جاگ لیں، لیکن اس رات میں اور دوسری راتوں میں کوئی فرق اور کوئی نمایاں امتیاز نہیں ہونا چاہئے۔

## ۷۲، رب جب کارو زہ ثابت نہیں

اسی طرح ستائیں رب جب کارو زہ ہے۔ بعض لوگ ستائیں رب جب کے روزے کو فضیلت والا سمجھتے ہیں۔ بیسے کہ عاشرہ اور عرفہ کارو زہ فضیلت والا ہے، اسی طرح ستائیں رب جب کے روزے کو بعض فضیلت والا روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک یادو ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہیں، لیکن صحیح مند سے کوئی روایت ثابت نہیں۔

## حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کا

### سد باب کیا

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ ۷۲، رب جب کو روزہ سمجھتے تھے، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ۷۲، رب جب کا خاص اہتمام کر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا ادھر ادھر ہوتا ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ فوراً گھر سے نکل پڑے، اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ، اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے۔ بلکہ جیسے اور دونوں میں نظری روزے رکھے جاسکتے ہیں، اسی طرح اس دن کا بھی نظری روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے یہ اہتمام اس لئے فرمایا تاکہ بدعت کا سد باب ہو، اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہو۔

## اس رات میں جاگ کر کونسی براہی کر لی؟

ای سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کر لی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کونسا گناہ کر لیا؟ کیا ہم نے چوری کر لی؟ یا شراب پی لی؟ یا ذاکر ڈالا؟ ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے، اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا؟

## دین "اتباع" کا نام ہے

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلادیا کہ خرابی یہ ہوئی کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور خود ساختہ اہتمام و انتہام ہی اصل خرابی ہے۔ میں یہ کئی بار عرض کر دیکھا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ "اتباع" ہے کہ ہمارا حکم مانو، نہ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ افظار کرنے میں کچھ رکھا ہے اور نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے جب ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اور جب ہم کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے، جب ہم کہیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے اور جب ہم کہیں کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے، اگر اس وقت روزہ رکھو گے تو یہ دین کے خلاف ہو گا۔ تو دین کا سارا کھلیل "اتباع" میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ حقیقت دل میں اتار دے تو ساری بدعتوں کی خود ساختہ التزامات کی جڑ کٹ جائے۔

## وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے

اب اگر کوئی شخص اس روزے کا زیادہ اہتمام کرے تو وہ شخص دین میں اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے، اور دین کو اپنی طرف سے گھر رہا ہے۔ لہذا اس نقطہ نظر سے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ہاں! البتہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس میں

بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن اس کی زیادہ فضیلت سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر، اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ اجر و ثواب کاموں بہ سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا، یا اس رات میں جانکار درست نہیں، بلکہ بدعت ہے۔

## کونڈوں کی حقیقت

شبِ مہماج کی تو پھر بھی کچھ اصل ہے کہ اس رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ مقام پر تشریف لے گئے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ آج کل معاشرے میں فرض و واجب کے درجے میں جو چیز پھیل گئی ہے وہ کونڈے ہیں، اگر آج کسی نے کونڈے نہیں کئے تو وہ مسلمان ہی نہیں، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزے رکھے یا نہ رکھے، گناہوں سے بچے یا نہ بچے، لیکن کونڈے ضرور کرے۔ اور اگر کوئی شخص نہ کرے یا کرنے والوں کو منع کرے تو اس پر لعنت اور ملامت کی جاتی ہے۔ خدا جانے یہ کونڈے کہاں سے نکل آئے؟ نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، نہ تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ سے نہ تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ سے اور نہ بزرگان دین سے، کہیں سے اس کی کوئی اصل ثابت نہیں، اور اس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں دین کا کوئی دوسرا کام ہو یا نہ ہو، لیکن کونڈے ضرور ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ذرا مزہ اور لذت آتی ہے، اور ہماری قوم لذت اور مزہ کی خوگر ہے، کوئی میلہ نہیں ہوتا چاہئے، اور کوئی حظ نفس کا سلام ہوتا چاہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جناب! پوریاں پک رہی ہیں، طلوہ پک رہا ہے، اور ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، اور ادھر سے ادھر آرہی ہیں اور ایک میلہ لگا ہوا ہے، تو چونکہ یہ بڑے مزے کا کام ہے، اس واسطے شیطان نے اس میں مشغول کر دیا کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، وہ کوئی ضروری نہیں، مگر یہ کام ضرور ہوتا چاہئے۔

## یہ امت خرافات میں کھو گئی

بھائی! ان چیزوں نے ہماری امت کو خرافات میں بٹلا کر دیا ہے۔

حقیقت روایات میں کھو گئی

یہ امت خرافات میں کھو گئی

اس قسم کی چیزوں کو لازمی سمجھ لیا گیا اور حقیقی چیزیں پس پشت ڈال دی گئیں۔  
اس کے بارے میں رفتہ رفتہ اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لئے کہ  
بہت سے لوگ صرف ناداقیت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی عناد  
نہیں ہوتا، لیکن دین سے واقف نہیں، ان بیچاروں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں  
ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، اور گوشت  
ادھر سے ادھر جاتا ہے، یہ بھی قربانی کی طرح کوئی ضروری چیز ہو گی، اور قرآن  
و حدیث میں اس کا بھی کوئی ثبوت ہو گا، اس لئے ایسے لوگوں کو محبت، پیار اور  
شفقت سے سمجھایا جائے، اور ایسی تقریبات میں خود غریک ہونے سے پرہیز کیا  
جائے۔

### خلاصہ

بہر حال! خلاصہ یہ ہے کہ رجب کامہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس لئے رمضان  
کے لئے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے حضور اقدس  
صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے دعا بھی فرمائے ہیں، اور لوگوں کو توجہ دلارہے  
ہیں کہ اب اس مبارک مہینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرو، اور اپنا نظام الاوقات  
ایسا بنانے کی فکر کرو کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ

کی عبادت میں صرف ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی فہم عطاے فرمائے، اور  
صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطاے فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# نیک کام ہیں دینہ کجھے

جس مولانا محمد تقی عثمانی مظلہم العالی



ضبط و ترتیب  
محمد عبد الرحمن

میجن اسلامک پبلیشورز

۱۸۸ / ۱ - لیاقت آباد، کراچی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## نیک کام میں دیر نہ کیجئے

الحمد لله خمده وستعينه وستغفره ونؤمن به ونتوكل  
عليه، ونحوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  
من يهدى الله فلامضى له ومن يضلله فلاهادى له،  
واشهدان لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وواشهدان  
سيدنا وآنسنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله — صلى  
الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليماً  
كثيراً كثيراً - اتابعد !

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ - يَسِمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مَرْتَبَةٌ رَتِيكُمْ وَجَنَّةٌ عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ  
وَالْأَرْضُ أَعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ه

(سورة آل عمران: ١٣٣)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله  
النبي الكريم وخفت على ذلك من الشهدان والشكتين  
والحمد لله رب العالمين۔

## مبادرت الی الخیرات

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جواب قائم کیا ہے۔ وہ ہے :

### باب المبادرۃ الی الخیرات

اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا، اور اللہ جل جلالہ کی عظمت شان، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغ پر غور کرے گا، اور اس کی شان ربویت پر غور کرے گا، تو اس غورو فکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دل ماکل ہو گا اور خود بخود دل میں داعیہ پیدا ہو گا کہ جس مالک نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور جس مالک نے یہ نعمتیں مجھ پر نازل فرمائی ہیں اور جس مالک نے مجھے رحمتوں کی بارش میں رکھا ہے، اس مالک کا بھی مجھ پر کوئی حق ہو گا؟ جب یہ داعیہ اور میلان پیدا ہو، اس وقت کیا کرنا چاہئے؟

اس سوال کے جواب کے لئے علامہ نووی ”نے یہ باب قائم فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا داعیہ پیدا ہو، اور نیک کام کے کرنے کا تحرک سامنے آئے، تو اس وقت ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ جلد از جلد اس نیک کام کو کر لے۔ اس میں درینہ لگائے۔ یہی معنی ہیں ”مبادرۃ“ کے، یعنی کسی کام کو جلدی سے کر لینا، ثالث مثال نہ کرنا، اور آئندہ کل پر نہ ثالثنا۔

نیکی کے کاموں میں رلیں اور دوڑ لگاؤ

علامہ نووی ”سب سے پہلے یہ آیتِ کریمہ لائے ہیں کہ :

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ هُنَّ رَّجُلُمْ وَجَنَّتُهُ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ  
وَالْأَرْضُ أَعِدَّتُ لِلْمُتَقِيِّينَ ۝ (سورہ آل عمران: ۱۳۲)

تمام انسانیت کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ اپنے پروار دگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جلدی سے دوڑو، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور وہ مقتنی لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

”سارعت“ کے معنی ہیں، جلد سے جلد کوئی کام کرنا، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ایک دوسرے آیت میں فرمایا کہ :

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (سورہ بقرۃ: ۱۴۸)

یعنی بھلاکی اور نیکی کے کاموں میں رہیں اور دوڑ لگاؤ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کسی نیک کام کا ارادہ اور داعیہ دل میں پیدا ہو تو اس کو ملاو ہمیں۔

### شیطانی داؤ

اس لئے کہ شیطان کے داؤ اور اس کے حربے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں، کافر کے لئے اور ہیں، مؤمن کے لئے اور ہیں۔ مؤمن کے دل میں شیطان یہ بات نہیں ڈالے گا کہ یہ نیکی کا کام مت کیا کرو، یہ بُرے کام ہیں۔ یہ بات براہ راست اس کے دل میں نہیں ڈالے گا، اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحبِ ایمان ہونے کی وجہ سے نیکی کے کام کو بُرا نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن مؤمن کے ساتھ اس کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھنا، یہ فلاں نیک کام کرنا تو اچھا ہے، اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن انشاء اللہ کل سے

شروع کریں گے۔ اب جب کل آئے گی تو پھر یہ کہے گا اچھا بھائی! کل سے شروع کروں گا، تو وہ کل کبھی زندگی بھر نہیں آئے گی۔ یا کسی اللہ والے کی بات دل میں اثر کر گئی کہ یہ بات تو صحیح ہے، عمل کرنا چاہئے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہئے، گناہوں کو چھوڑنا چاہئے، نیکیوں کو اختیار کرنا چاہئے۔ لیکن انشاء اللہ اس پر جلد از جلد عمل کریں گے، جب اس کو ملا دیا تو پھر کبھی اس پر عمل کی نوبت نہیں آئے گی۔

### عمرِ عزیز سے فائدہ اٹھالو

اسی طرح زندگی کے اوقات گزرتے جا رہے ہیں۔ عمرِ عزیز گزرتی جا رہی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کتنی عمر باقی ہے؟ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ کل پرمت ثالو، جو داعیہ اس وقت پیدا ہوا ہے، اس پر اسی وقت عمل کرو، کیا معلوم کہ کل تک یہ داعیہ رہے یا نہ رہے، اول تو یہ بھی نہیں پتہ کہ تم خود زندہ رہو یا نہ رہو اور اگر تم خود زندہ رہو تو یہ پتہ نہیں کہ یہ داعیہ باقی رہے گا یا نہیں؟ اور اگر داعیہ باقی رہا تو کیا معلوم کہ اس وقت حالات موافق ہوں یا نہ ہوں۔ بس! اس وقت جو داعیہ پیدا ہوا ہے اس پر عمل کر کے فائدہ حاصل کرلو۔

### نیکی کا داعیہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے

یہ داعیہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مہمان ہے، اس مہمان کی خاطر مدارات کرلو، اس کی خاطر مدارات یہ ہے کہ اس پر عمل کرلو، اگر نفل نماز پڑھنے کا داعیہ پیدا ہوا، اور یہ سوچا کہ یہ فرض واجب تو ہے نہیں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ تو ہو گا نہیں، چلو چھوڑو۔ یہ تم نے اس مہمان کی ناقدری کر دی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصلاح کی خاطر بھیجا تھا۔ اگر تم نے اسی وقت فوراً عمل نہ کیا تو پیچھے رہ جاؤ گے، پھر معلوم نہیں کہ دوبارہ مہمان آئے، یا نہ

آنے، بلکہ وہ آتا بند کر دے گا، کیونکہ وہ مہمان یہ سوچے گا کہ یہ شخص میری بات تو مانتا نہیں، اور میری ناقد ری کرتا ہے، میری خاطر مدارات نہیں کرتا، میں اب اس کے پاس نہیں جاتا اس طرح دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہی بند ہو جائے گا۔ بہر حال ویسے تو ہر کام میں جلدی اور عجلت کرنا بُرا ہے، لیکن جب دل میں کسی نیک کام کے کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو اس پر جلدی عمل کر لیتا ہی اچھا ہے۔

### فرصت کے انتظار میں مت رہو

اگر اپنی اصلاح کی فکر کا دل میں خیال آیا کہ زندگی ویسے ہی گزری جاری ہے، نفس کی اصلاح ہونی چاہئے، اور اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہونی چاہئے۔ لیکن ساتھ ہی یہ سوچا کہ جب فلاں کام سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اصلاح شروع کریں گے۔ یہ فرصت کے انتظار میں عمرِ عزیز کے جو لمحات گزر رہے ہیں، وہ فرصت کبھی آنے والی نہیں ہے۔

### کام کرنے کا بہترین گُر

ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ :

”جو کام فرصت کے انتظار میں ثال دیا، وہ ثل گیا، وہ پھر نہیں ہو گا۔ اس واسطے کہ تم نے اس کو ثال دیا۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو کاموں کے درمیان تیرے کام کو گھسادو، یعنی وہ دو کام جو تم پہلے سے کر رہے ہو، اب تیرا کام کرنے کا خیال آیا، تو ان دو کاموں کے درمیان تیرے

کام کو زبردستی گھبادو، وہ تیسرا کام بھی ہو جائے گا، اور اگر یہ سوچا کہ ان دو کاموں سے فارغ ہو کر پھر تیسرا کام کریں گے تو پھر وہ کام نہیں ہو گا۔ یہ منصوبے اور پلان بنانا کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر کام کریں گے، یہ سب نالنے والی باتیں ہیں، شیطان عموماً اسی طرح دھوکہ میں رکھتا ہے۔

## نیک کاموں میں ریس لگانا بُرا نہیں

اس لئے "مباررت الی الخیرات" یعنی نیک کاموں میں جلدی کرنا اور آگے بڑھنا قرآن و سنت کا تقاضہ ہے۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے لئے یہ باب قائم فرمایا ہے "باب المباررت الی الخیرات" یعنی بھلائیوں کی طرف جلدی سے سبقت کرنا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دو لفظ استعمال کئے ہیں : ایک "مباررت" یعنی جلدی کرنا، دوسرا "سابقت" یعنی مقابلہ کرنا، ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ مقابلہ کرنا اور ریس لگانا نیکی کے معاملے میں محبوب ہے، لیکن دوسری چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا برا ہے، جیسے مال کے حصول میں، عزت کے حصول میں، شہرت کے معاملے میں، دنیا کے حصول میں، جاہ طلبی کے معاملے میں، ان سب میں یہ بات بُری ہے کہ انسان دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص میں لگ جائے۔ لیکن نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ایک محمود اور قابل تعریف جذبہ ہے۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ فَاسْتَبِّقُوا الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک شخص کو تم دیکھ رہے ہو کہ ماشاء اللہ عبادت میں لگا ہوا ہے، طاعات میں لگا ہوا ہے، گناہوں سے نج رہا ہے، اب کوشش کرو کہ میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤں، اس میں ریس لگانا بُرا نہیں۔

## دنیاوی اسباب میں ریس لگانا جائز نہیں

یہاں معاملہ اتنا ہو گیا ہے، اس وقت ہماری پوری زندگی ریس لگانے میں گزرنی ہے۔ لیکن ریس میں لگ رہی ہے کہ پیسے زیادہ سے زیادہ کہاں سے آجائے، دوسرے نے اتنا کمالیا، میں اس سے زیادہ کمالوں۔ دوسرے نے اسیا بچلہ بنالیا، میں اس سے اعلیٰ درجے کا بنا لوں، دوسرے نے ایسا ساز و سامان جمع کر لیا، میں اس سے اعلیٰ درجے کا جمع کروں۔ پوری قوم اسی ریس کے اندر بٹتا ہے، اور اس ریس میں حلال و حرام کی فکر مت گئی ہے، اس لئے کہ جب دماغ پر یہ یقینہ ہے سوار ہو گیا کہ دنیا وی ساز و سامان میں دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، تو طرف حرام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح اب حلال و حرام ایک ہو رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس چیز میں ریس لگانا اور مقابلہ کرنا شرعاً برا تھا وہاں سب مقابلے پر لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا مطلوب تھا، اس میں پچھے رہ گئے ہیں۔

## غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمرؓ کا حضرت ابو بکرؓ سے مقابلہ

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھنے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا، غزوہ تبوک برا کھن غزوہ تھا۔ ایسا صبر آزمایا غزوہ اور ایسی صبر آزمائیں شاید کوئی اور پیش نہیں آئی جیسی غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آئی، سخت گرمی کا موسم، وہ موسم جس میں آسمان سے شعلے برستے ہیں، زمین آگ الگتی ہے اور تقریباً بارہ سو کلو میٹر کا صحرائی سفر، اور سمجھو ریس پکنے کا زمانہ، جس پر سارے سال کی معیشت کا دارود مدار ہوتا ہے، سواریاں میسر

نہیں، پیسے موجود نہیں، اور اس وقت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے لئے نفیر عام ہے کہ وہ اس غزوہ میں چلے، اور اس میں شریک ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ یہ غزوہ کا موقع ہے، اور سواریوں کی ضرورت ہے، اونٹیاں چاہیں، پیسوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں چندہ دین، اور جو شخص اس میں چندہ دے گا، میں اس کے لئے جنت کی ممتازت دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام کہاں پیچھے رہنے والے تھے، جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سن لیں کہ ان کے لئے جنت کی ممتازت ہے، اب ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دے رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، اور میں نے اپنے گھر کا جتنا کچھ ساز و سامان اور روپیہ پیسے تھا وہ آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور پھر آدھا حصہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا، اور دل میں خیال آنے لگا کہ آج وہ دن ہے کہ شاید میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، یہ ہے ”مسابقات الی الخیرات“ مگر کبھی ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیسے میں آگے بڑھ جاؤں، کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت پیسے ہیں، ان سے زیادہ پیسے مجھے حاصل ہو جائیں، لیکن یہ جذبہ پیدا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جو مقام بخشنا ہے، ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، اور جو کچھ تھا حاضر کر دیا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اے عمر! گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آدھا مال گھروں کے

لئے چھوڑ دیا، اور آدھا غزوہ کے لئے اور جہاد کے لئے آیا ہوں۔ آپ نے ان کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا : کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر یہاں لے آیا ہوں۔ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں چاہے ساری عمر کو شش کرتا رہوں لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

(ابوداؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب فی الرخصة فی الرجل بجز من ماله، حدیث نمبر ۱۹۷۸)

### ایک مشالی معاملہ

ایک مرتبہ فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کریں تو میں برا احسان متداہوں گا۔ انہوں نے پوچھا : کیا معاملہ؟ فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ساری عمر کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنے اعمال صالح ہیں، وہ سب مجھ سے لے لیں، اور وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارِ ثور میں گزاری، اس کا ثواب مجھے دے دیں (یعنی وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارِ ثور میں گزاری، وہ میرے سارے اعمال پر بھاری ہے)۔

غرض یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ یہ سوچیں کہ فلاں نے اتنے پیے جمع کر لئے، میں بھی جمع کرلوں۔ فلاں کا مکان بڑا شاندار ہے، میرا بھی ویسا ہو جاتا۔ فلاں کی سواری بہت اچھی ہے، ویسی مجھے بھی مل جاتی۔ لیکن اعمال صالح میں

مسابقت نظر آتی ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ بالکل انداز چل رہا ہے، اعمالِ صالح میں آگے بڑھنے کی کوئی فکر نہیں، اور مال کے اندر صبح سے لے کر شام تک دوڑ ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہیں۔

### ہمارے لئے نجۃ اکسیر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب ارشاد فرمایا، جو ہمارے لئے نجۃ اکسیر ہے، فرمایا کہ:

”دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور اپنے سے کمتر حیثیت والوں کے ساتھ رہو، اُن کی صحبت اختیار کرو، اور ان کے حالات کو دیکھو۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر نیچے آدمی کو دیکھو، اور ان کی صحبت اختیار کرو۔“

کیوں؟ اس لئے کہ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہو گی کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے، اور اس سے قاتع پیدا ہو گی، شکر پیدا ہو گا اور دنیا طلبی کی دوڑ کا جذبہ ختم ہو گا۔ اور دین کے معاملے میں جب اور والوں کو دیکھو گے کہ یہ شخص تو دین کے معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ گیا تو اس وقت اپنی کمی کا احساس پیدا ہو گا، اور آگے بڑھنے کی فکر پیدا ہو گی۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ نے کیسے راحت حاصل کی؟

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو محدث بھی ہیں، فقیر بھی

ہیں، صوفی بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ :

میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ مالداروں کے ساتھ گزارا  
 (خود بھی مالدار تھے) صبح سے شام تک مالداروں کے ساتھ  
 رہتا تھا، لیکن جب تک مالداروں کی صحبت میں رہا، مجھ سے  
 زیادہ غمگین انسان کوئی نہیں تھا، کیونکہ جہاں جاتا، یہ دیکھتا  
 کہ اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کی سواری میری  
 سواری سے اچھی ہے، اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا  
 ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میرے دل میں کڑھن پیدا  
 ہوتی تھی کہ مجھے تو ملا نہیں اور اس کو مل گیا۔ لیکن بعد میں  
 دنیاوی حیثیت سے جو کم مال والے تھے، ان کی صحبت اختیار  
 کی، اور ان کے ساتھ اٹھنے پہنچنے لگا، تو فرماتے ہیں کہ  
 ”فاسترحت“ یعنی میں راحت میں آگیا، اس واسطے کہ جس کو  
 بھی دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں تو بہت خوشحال ہوں،  
 میرا کھانا بھی اس کے کھانے سے اچھا ہے، میرا کپڑا بھی  
 اس کے کپڑے سے اچھا ہے، میرا گھر بھی اس کے گھر سے  
 اچھا ہے، میری سواری بھی اس کی سواری سے اچھی ہے،  
 اس واسطے میں اب الحمد للہ راحت میں آگیا ہوں۔

### ورنہ کبھی قناعت حاصل نہیں ہوگی

یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی برکت ہے،  
 کوئی شخص تجربہ کر کے دیکھ لے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپنچے کو دیکھتے  
 رہو گے تو کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی قناعت حاصل نہیں ہوگی، کبھی آنکھوں  
 کو سیری نصیب نہیں ہوگی، ہر وقت یہی فکر ذہن پر سوار رہے گی جس کے بارے

میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

لوگان لابت آدم وادیا من ذهب اُحباب ان یکون له  
وادیاں۔

(صحیح بخاری، کتاب الرفق، باب مائیقی من فتنۃ المال، حدیث  
نمبر ۶۴۳۹)

”اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو وہ یہ  
چاہے گا کہ دو وادیاں مل جائیں۔“

اور جب دو مل جائیں گی تو چاہے گا کہ تین مل جائیں۔ اور اسی طرح پوری  
زندگی اسی دوڑ میں صرف ہو جائے گی، اور کبھی راحت کی منزل پر قناعت اور  
سکون کی منزل پر پہنچ نہیں پائے گا۔

## مال و دولت کے ذریعہ راحت نہیں خریدی جاسکتی

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سره کیا  
اچھی بات فرمایا کرتے تھے، لوحِ دل پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا کرتے  
تھے کہ :

”راحت اور آرام اور چیز ہے اور اسبابِ راحت اور چیز  
ہیں۔ اسبابِ راحت سے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری  
نہیں، ”راحت“ اللہ جل جلالہ کا عطیہ ہے۔ اور ہم نے  
آج اسبابِ راحت کا نام راحت رکھ دیا ہے۔ بہت سارا  
روپیہ رکھا ہو تو کیا بھوک کے وقت وہ اس کو کھالے گا؟ کیا  
اگر کپڑے کی ضرورت ہوگی تو اسی کو پہن لے گا؟ کیا گرمی  
لگنے کے وقت وہ پیسہ اس کو ٹھنڈک پہنچا سکے گا؟ بذاتِ خود

نہ تو یہ پیسہ راحت ہے اور نہ ہی اس کے ذریعہ تم راحت خرید سکتے ہو۔ اور اگر اس کے ذریعے تم نے اسابِ راحت خرید بھی لئے، مثلاً آرام کے خاطر تم نے اس کے ذریعے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں، اچھے کپڑے خرید لئے، مگر کی سجاوٹ کا سامان خرید لیا، لیکن کیا راحت حاصل ہو گئی؟ یاد رکھو! محض ان اساب کو جمع کر لینے سے راحت کا مل جانا کوئی ضروری نہیں، اس لئے کہ ایک شخص کے پاس راحت کے تمام اساب موجود ہیں، لیکن صاحب ہبادر کو گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی، بستر آرام وہ، ایر کنڈی شنڈ کرہ اور نوکر چاکر بھی کچھ موجود ہیں، لیکن نیند نہیں آرہی ہے۔

اب بتاؤ! اسابِ راحت سارے موجود، لیکن نیند ملی؟ راحت ملی؟ اور ایک وہ شخص ہے جس کے گھر پر نہ تو کی چھت ہے، بلکہ ٹین کی چادر ہے، نہ چارپائی ہے، بلکہ فرش پر سورہا ہے، لیکن بس ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا، اور سیدھا نیند کی آغوش میں چلا گیا، اور آٹھ گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر صبح کو بیدار ہوا۔ بتاؤ! راحت اُس کو ملی یا اس کو ملی؟ اُس کے پاس اساب راحت موجود تھے، لیکن راحت نہیں ملی، اور اس مزدور کے پاس اساب راحت موجود نہیں تھے۔ لیکن راحت مل گئی۔ یاد رکھو! اگر دنیا کے اساب جمع کرنے کی فکر میں لگ گئے، اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگ گئے، تو خوب سمجھ لو کہ اسابِ راحت تو جمع ہو جائیں گے، لیکن راحت پھر بھی حاصل نہ ہو گی۔

## وہ دولت کس کام کی جو اولاد کو باپ کی شکل نہ دکھا سکے

حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، بہت بڑے میل اوز، اور ان کا کاروبار یہاں صرف پاکستان میں ہی نہیں تھا، بلکہ مختلف ممالک میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ ایک دن ویسے ہی والد صاحب نے پوچھا کہ آپ کی اولاد کتنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا سنگاپور میں ہے، ایک لڑکا فلاں ملک میں ہے، سب دوسرے ملکوں میں ہیں۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ کی لڑکوں سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہوگی، وہ آتے جاتے رہتے ہوں گے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہوئے ۱۵ سال ہو گئے ہیں، ۱۵ سال سے باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، اور بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ تو اب بتاؤ ایسا روپیہ اور ایسی دولت کس کام کی جو اولاد کو باپ کی شکل بھی نہ دکھا سکے، اور باپ کو اولاد کی شکل نہ دکھا سکے۔ یہ ساری دوڑو ہوپ اس باب راحت کے لئے ہو رہی ہے، لیکن راحت مفقود ہے۔ اس لئے یاد رکھو کہ راحت پیسے کے ذریعہ نہیں خریدی جاسکتی۔

## پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جاسکتی

ابھی چند روز پہلے ایک صاحب نے ذکر کیا کہ وہ رمضان میں عمرے کو تشریف لے گئے، اور ایک اور صاحب دولت مند بھی عمرے کو جا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ عمرے کو جا رہے ہو، پہلے سے ذرا انتظام کر لینا، تاکہ رہنمک کے لئے اور کھانے کے پینے کے لئے صحیح انتظام ہو جائے۔ وہ اپنی دولت کے گھنڈ میں تھے، کہنے لگے: ارے میاں! چھوڑو انتظام وغیرہ اللہ کا شکر ہے، پیسے بہت موجود ہیں، پیسے سے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، آرام دہ رہائش بھی مل جاتی ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، ہمارے پار پیسے خوب ہے، دس

ریال کی جگہ بیس ریال خرچ کر دیں گے۔ وہی صاحب بزار ہے تھے کہ میں نے دو دن کے بعد دیکھا تو حرم شریف کے دروازے پر سر جھکائے بیٹھے ہیں، میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے سحری میں اٹھے تھے، لیکن ہوش میں کھانا نہیں ملا، کھانا ختم ہو گیا تھا۔ دماغ میں گھمنڈ تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جاسکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ دیکھو! پیسے تمہاری جیب میں رکھا رہ گیا، اور روزہ بغیر سحری کے رکھا۔

### سکون حاصل کرنے کا راستہ

یہ پیسہ، یہ ساز، سامان، یہ مال و دولت جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، یہ بذاتِ خود راحت دینے والی چیز نہیں ہے، راحت پیسے سے خریدی نہیں جاسکتی، وہ حضنِ اللہ تعالیٰ کا عطا ہے، جب تک قناعت پیدا نہیں ہو گی، اور جب تک یہ خیال پیدا نہیں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے جتنا مجھے دے رہے ہیں، اسی سے میرا کام چل رہا ہے، اس وقت تک تمہیں سکون حاصل نہیں ہو گا۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت بے حد و حساب ہے لیکن ایک لمحے کا سکون نہیں، ایک لمحے کا قرار نہیں، رات کو نیند نہیں آتی، اور بھوک اڑی ہوئی ہے۔ یہ سب اس دنیا کی دوڑ کا نتیجہ ہے۔ اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ: دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپنے آدمی کو نہ دیکھو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے تمہیں قرار آئے گا۔ تمہیں راحت ملے گی اور سکون حاصل ہو گا۔ لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اوپنے کو دیکھو، کیون؟ اس لئے کہ اس کے ذریعے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو گا، اور آگے بڑھنے کی بے تابی ہو گی۔ لیکن یہ بے تابی بڑی لذیذ بے تابی ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں دنیا جمع کرنے کی بے تابی اور بے چینی تکلیف دہ ہے، وہ

پریشان کرنے ہے، وہ راتوں کی نیند اڑادیتی ہے، وہ بھوک اڑادیتی ہے۔ لیکن دین کے لئے جو بے تابی ہوتی ہے وہ بڑی مزدار ہے، بڑی لذیذ ہے۔ اگر انسان ساری عمر اسی بے تابی میں رہے، تب بھی وہ لذت میں رہے گا، راحت اور سکون میں رہے گا۔ لیکن ہماری ساری زندگی کا پہنچ والا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فکر کو درست فرمائے، ہمارے دلوں کو درست فرمائے، اور جو راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں آگے یہ حدیثیں آری ہیں۔

### فتنه کا زمانہ آنے والا ہے

یہ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال:  
بادروا بالاعمال الصالحة فتکون فتن کقطع اللیل المظلوم  
یصح الرجل مؤمناً ویسمی کافراً ویسمی مؤمناً ویصح کافراً  
یبعیج دینه بعرض من الدنیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان باب الحث علی المبادرة بالاعمال قبل ظاهیر  
الفن، حدیث غبراء ۱۸۶)

فرمایا کہ نیک عمل جلدی کرو، جتنا وقت مل رہا ہے، اس کو غنیمت جانو، کیوں؟ اس لئے کہ بڑے فتنے آنے والے ہیں، ایسے فتنے جیسے انہیں رات کے ٹکڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں رات شروع ہوتی ہے، اور اس کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دوسرا حصہ بھی رات ہی کا حصہ ہوتا ہے، اور اس میں تاریکی اور برصغیر چلی جاتی

ہے، اور پھر تیرے حصے میں انڈھیرا اور بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر آدمی اس انتظار میں رہے کہ ابھی مغرب کا وقت ہے، تھوڑی سی تاریکی ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد روشنی ہو جائے گی، اس وقت کام کروں گا تو وہ شخص احمد ہے۔ اس واسطے کہ اب جو وقت گزرنے گا تو اور زیادہ تاریکی کا وقت آئے گا۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ اور تھوڑا سا وقت گزر جائے پھر کام شروع کروں گا تو یاد رکھو! کہ اور وقت جو آنے والا ہے، وہ زیادہ تاریکی والا ہے، آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں وہ بھی انڈھیری رات کے نکڑوں کی طرح ہیں کہ ہر فتنے کے بعد بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ صح کو انسان مؤمن ہو گا اور شام کو کافر ہو جائے گا یعنی ایسے فتنے آنے والے ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیں گے، صح کو مؤمن بیدار ہوا تھا، لیکن فتنے کا شکار ہو کر شام کے وقت کافر ہو گیا، اور شام کو مؤمن تھا، صح کو کافر ہو گیا، اور یہ کافر اس طرح ہو جائے گا کہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے سازو سامان کے بدلتے میں نجٹ ڈالے گا۔ صح کو مؤمن اٹھا تھا اور جب کاروبار زندگی میں پہنچا تو فکر گلی ہوئی تھی دنیا جمع کرنے کی، مال و دولت جمع کرنے کی، اور اس دوران مال حاصل کرنے کا ایک ایسا موقع سامنے آیا جس کے ساتھ شرط یہ تھی کہ دین چھوڑو تو تمہیں دنیا مل جائے گی۔ اب اس وقت دل میں کش کش پیدا ہوئی کہ اپنے دین کو چھوڑ کر یہ مال حاصل کروں، یا اس مال پر لاث مار کر دین کو اختیار کروں۔ لیکن چونکہ وہ شخص پہلے سے ٹلانے کا عادی بنا ہوا تھا، اس لئے اس نے سوچا کہ دین کے بارے میں باز پرس معلوم نہیں کب ہو گی؟ کب مرسیں گے؟ اور کب حشر ہو گا؟ کب ہمارا حساب و کتاب ہو گا؟ وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی فوری معاملہ تو یہ ہے کہ یہ مال حاصل کرلو۔ اب وہ دنیا کا سازو سامان حاصل کرنے کے لئے اپنا دین نجٹ ڈالے گا۔ اس لئے فرمایا کہ صح کو مؤمن اٹھا تھا، شام کو کافر ہو کر سویا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ

تعالیٰ بچائے، آمین۔

## ”ابھی توجوں ہیں“ شیطان کا دھوکہ ہے۔

لہذا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر نیک عمل کرنا ہے اور مسلمان کی طرح زندہ رہنا ہے تو انتظار کس چیز کا؟ جو عمل کرنا ہے بس جلدی کرو۔ اب ہم سب اپنے اپنے گرباں میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں دن رات یہ خیال آتا رہتا ہے کہ اچھا اب نیک عمل کریں گے، اور شیطان یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو نوجوان ہیں، ابھی تو ادھیز عمر کو پہنچیں گے، اور پھر بیوڑھے ہوں گے، پھر اس وقت نیک اعمال شروع کر دیں گے۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیم ہیں، اور ہماری رگوں سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شیطان ان کو اس طرح بہکائے گا۔ اس لئے فرمادیا کہ جلدی جلدی نیکیاں کرو، اور جو نیک کاموں کی باتیں سن رہے ہو، اس پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ کل کا انتظار مت کرو، اس لئے کہ کل آنے والا فتنہ معلوم نہیں تھیں کہاں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

## نفس کو بہلا کر اور دھوکہ دے کر اس سے کام لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالمحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو زرا دھوکہ دے کر اس سے کام لیا کرو۔ اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ روزانہ تجد پڑھنے کا معمول تھا۔ آخر عمر اور ضعف کے زمانے میں ایک دن بھروسہ اللہ تھجد کے وقت جب آنکھ کھلی تو طبیعت میں بڑی سُستی اور کسل تھا، دل میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں، کسل بھی ہے، اور عمر بھی تمہاری زیادہ ہے، اور تہجد کی نماز کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، پڑے رہو، اور آج

اگر تہجد چھوڑ دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بات تو  
ٹھیک ہے کہ تہجد فرض واجب بھی نہیں ہے، اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، باقی  
یہ وقت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ  
جب رات کا ایک تھانی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اہل  
زمین پر متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی پکارتا ہے کہ کوئی  
مغفرت مانگنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، ایسے وقت کو بیکار گزارنا بھی  
ٹھیک نہیں ہے، نفس کو بہلا دیا کہ اچھا ایسا کرو کہ اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر  
تھوڑی سی دعا کرو اور دعا کر کے سو جانا، چنانچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دعا کرنی شروع  
کر دی، دعا کرتے کرتے میں نے نفس سے کہا کہ میاں! جب تم اٹھ کر بیٹھ گئے تو  
نیند تو تمہاری چلی گئی، اب غسل خانے تک چلے جاؤ، اور استجاء وغیرہ سے فارغ  
ہو جاؤ، پھر آرام سے آکر لیٹ جانا۔ پھر جب غسل خانے پہنچا اور استجاء وغیرہ  
سے فارغ ہو گیا تو سوچا کہ چلو وضو بھی کرلو، اس لئے کہ وضو کر کے دعا کرنے میں  
قبولیت کی توقع زیادہ ہے، چنانچہ وضو کر لیا اور بستر پر واپس آکر بیٹھ گیا، اور دعا  
شروع کر دی، پھر نفس کو بہلا دیا کہ بستر پر بیٹھ کر کیا دعا ہو رہی ہے، دعا کرنے کی جو  
تمہاری جگہ ہے، وہیں جا کر دعا کرلو، اور نفس کو جائے نماز تک کھینچ کر لے گیا،  
اور جا کر جلدی سے دور رکعت تہجد کی نیت باندھ لی۔

پھر فرمایا کہ اس نفس کو تھوڑا سا دھو کہ دے دے کر بھی لانا پڑتا ہے،  
جس طرح یہ نفس تمہارے ساتھ نیک کام کو ملانے کا معاملہ کرتا ہے، اسی طرح  
تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرو، اور اس کو کھینچ کھینچ کر لے جایا کرو،  
انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کی توفیق عطا فرمادیں گے۔

### اگر اس وقت سربراہِ مملکت کا پیغام آجائے

ایک مرتبہ فرمایا کہ صحیح نجر کی نماز کے بعد ۲ گھنٹے تک اپنے معمولات،

خلافت، ذکر رواذکار اور تسبیح میں گزارتا ہو۔ ایک دن طبیعت میں کچھ سُستی تھی، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج تو یہ کہہ رہے ہو کہ طبیعت میں کُسل ہے، سُستی ہے، اٹھا نہیں جاتا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس وقت سربراہِ مملکت کا پیغام لے کر آئے کہ آپ کو کوئی انعام وینے کے لئے بلا یا گیا ہے تو کیا پھر بھی سُستی باقی رہے گی؟ پھر بھی یہ کُسل باقی رہے گا؟ نفس نے جواب دیا کہ نہیں، اس وقت تو کُسل اور سُستی باقی نہیں رہے گی، بلکہ دوڑے دوڑے جائیں گے، اور جا کر انعام وصول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ وقت بھی اللہ جل جلالہ کے دربار میں حضوری کا وقت ہے، اور حضوری کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے انعامات وصول کرنے کا وقت ہے؛ پھر کہاں کی سُستی اور کہاں کا کُسل، چھوڑو اس کُسل اور سُستی کو۔ بس یہ سوچ کر اپنے دل کو بہلا یا، اور اپنے معمولات میں مشغول ہو گیا۔ بہر حال یہ نفس اور شیطان تو انسان کے بہکانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی بہلا یا کرو، اور جلدی سے ان اعمال کو کرنے کی فکر کیا کرو۔

### جنت کا سچا طلب گار

دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے، فرماتے

ہیں کہ :

”غزوہ اُحد کی لاٹی کے دوران جبکہ معرکہ گرم ہے، مسلمان اور کافروں کی لاٹی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرمارہے ہیں، مسلمان کم ہیں اور کافر نیادہ ہیں، مسلمان بے سرو سامان ہیں، اور کافر مسلح ہیں، اور ہر لحاظ سے معرکہ سخت ہے۔ اس وقت میں ایک دیہاتی قسم کا آدمی کھجوریں کھاتا جا رہا تھا، اس نے آکر نبی کلم صلی اللہ علیہ

وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ لڑائی جو آپ کروا رہے ہیں اس میں اگر ہم قتل ہو گئے تو ہمارا انعام کیا ہو گا؟ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کا انعام جنت ہے، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کھجوریں کھاتا جا رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ اس کا انعام جنت ہے تو کھجوریں پھینک کر سیدھا لڑائی میں ٹھُس گیا، بہاں تک کہ اسی میں شہید ہو گیا۔

اس لئے کہ جب اس نے سن لیا کہ اس جہاد کا انعام جنت ہے، تو پھر اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ وہ ان کھجوروں کو پورا کر کے پھر جہاد میں شریک ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے مقام تک پہنچا دیا۔ یہ اسی کی برکت تھی کہ نیکی کا جو داعیہ پیدا ہوا، اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کی، بلکہ فوراً آگے بڑھ کر اس پر عمل کر لیا۔

### اذان کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ام المؤمنین! سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر جو ارشادات فرماتے ہیں، اور گھر کے باہر جیسی زندگی گزارتے ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ گھر میں کیا عمل کرتے ہیں؟ (ان کے زین میں یہ ہو گا کہ گھر میں جا کر صلی بچھاتے ہوں گے، اور نماز اور ذکر و اذکار اور تسبیح وغیرہ میں مشغول رہتے ہوں گے) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ :

”جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ

ہمارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، اور ہمارا ذکر  
ورد بھی سنتے ہیں، ہمارے ساتھ خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے  
ہیں، ہمارے ساتھ ٹھلے ملے رہتے ہیں۔ البتہ ایک بات ہے  
کہ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے تو اس طرح انہوں  
کرپلے جاتے ہیں جس طرح ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔

### اعلیٰ درجے کا صدقہ

تمیری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں

کہ :

جاء مناجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال:  
یا مسیح سول اللہ! ای الصدقۃ اعظم اجر؟ قال: ان تصدق  
وانت صحیح "شیع" تخشی الفقر وتأمل الغنی ولا تمهل  
حتی اذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان کذا ولفلان کذا وقد  
کان لفلان -

(صحیح بخاری، کتاب الوصایا، باب الصدقۃ عند الموت)

فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں  
آئے، اور پوچھا کہ سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا  
کہ سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی صحت کی حالت میں صدقہ کرو،  
اور ایسے وقت میں صدقہ کرو جب تمہارے دل میں مال کی محبت ہو، اور دل میں  
یہ خیال ہو کہ یہ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے یوں لٹا دیا جائے، اور مال خرج  
کرنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہو اور یہ بھی اندریشہ ہو کہ اس صدقہ کرنے کے  
نتیجے میں بعد میں فقر کا شکار ہو جاؤں گا، اور بعد میں معلوم نہیں کیا حالات ہوں

گے؟ اس وقت جو صدقہ کرو گے وہ بڑا اجر والا ہو گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ دینے کا دل میں خیال آیا ہے تو اس کو ملاو نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض لوگ صدقہ کرنے کو ملاتے رہتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت بالکل قریب آجائے گا تو اس وقت کچھ وصیت کر جائیں گے کہ مرنے کے بعد میرا اتنا مال فلاں کو دے دینا، اور اتنا مال فلاں کو دینا، اور اتنا مال کام میں لگا دینا وغیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا؟ اے اب تو وہ تمہارا مال رہا ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہو گیا، کیوں؟ اس لئے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیاری کی حالت میں کوئی صدقہ کرے، یا صدقہ کرنے کی وصیت کرے کہ اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، یا کسی شخص کو یہہ کرے، اور اسی پیاری میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں صرف ایک تہائی مال کی حد تک صدقہ نافذ ہو گا، اور باقی دو تہائی مال دو رثاء کو سطے گا، اس لئے کہ وہ دارثوں کا حق ہے۔ کیونکہ مرنے سے پہلے پیاری ہی میں اس مال کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔

سوچا یہ تھا کہ آخری عمر میں جا کر سارا مال کسی صدقہ جاریہ میں لگادیں گے تو ساری عمر ثواب ملتا رہے گا۔ حالانکہ وہ تو حالتِ مجبوری کا صدقہ ہے، اور اجر و ثواب والا صدقہ تو وہ ہے جو صحت کے وقت میں مال کی ضرورت اور محبت اور اس کے جمع کرنے کے خیال کے وقت میں کیا جائے۔

### وصیت ایک تہائی مال کی حد تک فافذ ہوتی ہے

یہاں یہ بات سمجھ بیجھے کہ بعض لوگ وصیت کے خواہش مند تو ہوتے ہیں کہ صدقہ جاریہ میں کوئی چیز لگ جائے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں یہ وصیت لکھ گئے کہ

میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں ضرورت مند کو دے دیا جائے، تو یہ وصیت  
صرف ایک ہٹائی کی حد تک نافذ ہوگی، ایک ہٹائی سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی،  
اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمार ہے ہیں کہ :

”صدقة کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا ہے اس پر ابھی عمل  
کرلو۔“

### اپنی آمدنی کا ایک حصہ صدقہ کرنے کے لئے علیحدہ کرو

اور اس کا ایک طریقہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کرچکا ہوں،  
جس کا بزرگوں نے تجربہ بھی کیا ہے۔ اس پر اگر انہاں عمل کر لے تو پھر صدقہ  
کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، ورنہ ہم لوگ تو نیک کام کو ٹلانے کے عادی بن چکے  
ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو آمدنی ہے اس کا ایک حصہ مقرر کر لیں کہ یہ  
حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، چاہے وہ دسوائیں  
حصہ مقرر کریں یا بیسوائیں حصہ وغیرہ۔ اور پھر جب آمدنی آئے تو اس میں سے وہ  
مقرر حصہ نکال کر علیحدہ رکھ دیں اور اس کے لئے کوئی لفافہ بنالیں، اس میں  
ڈالتے جائیں۔ اب وہ لفافہ خود یاد دلاتا رہے گا کہ مجھے خرچ کرو۔ کسی صحیح  
مصرف پر لگاؤ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔  
ورنہ اگر خرچ کرنے کا موقع سامنے آتا ہے تو آدمی سوچتا رہتا ہے کہ خرچ کروں  
یا نہ کروں۔ لیکن جب وہ لفافہ موجود ہو گا، اور پہلے سے اس کے اندر پیسے موجود  
ہوں گے، تو وہ خود یاد دلائے گا، اور موقع سامنے آنے کی صورت میں سوچنے کی  
ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق یہ معمول  
بنالے تو اس کے لئے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔

## اللہ تعالیٰ کے یہاں گئتی نہیں دیکھی جاتی

یاد رکھو : اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گئتی اور تعداد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جذبہ اور اخلاص دیکھا جاتا ہے، ایک آدمی جس کی آمدی سو روپے ہے، وہ اگر ایک روپیہ اللہ کی راہ میں دینتا ہے، وہ اس آدمی کے برابر ہے جس کی آمدی ایک لاکھ روپے ہے، اور ایک ہزار روپے اللہ کی راہ میں دینتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ ایک روپیہ دینے والا اپنے اخلاص کی وجہ سے اس سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اس واسطے گئتی کونہ دیکھو۔ بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کی فضیلت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے تو پھر اپنی آمدی کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کردو۔

## میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کا معمول

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ہمیشہ محنت سے حاصل ہونے والی آمدی کا دسوال حصہ اور بغیر محنت کے حاصل ہونے والی آمدی کا دسوال حصہ علیحدہ لفافے میں رکھ دیا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ ساری زندگی کا معمول تھا، اگر ایک روپیہ بھی کہیں سے آیا تو اسی وقت اس کا دسوال حصہ نکال کر اس کی ریزگاری کر اکراں لفافے میں ڈال دیتے، اور اگر سو روپے آئے ہیں تو دس روپے ڈال دیتے، وقت طور پر اگرچہ اس عمل میں تھوڑی سی دشواری ہوتی تھی کہ فی الحال ٹوٹے ہوئے پیسے موجود نہیں ہیں، اب کیا کریں، اس کے لئے مستقل انتظام کرنا پڑتا تھا، لیکن ساری عمر کبھی اس عمل سے تخلف نہیں دیکھا اور میں نے وہ تھیلا کبھی ساری عمر کبھی خالی نہیں دیکھا۔ الحمد للہ۔ اس عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس طرح نکال کر الگ کرتا رہتا ہے تو وہ تھیلا خود یاد دلا تارہتا ہے کہ مجھے خرچ کرو، اور کسی صحیح

مصرف پر لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اتفاق کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں۔

## ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے

ایک صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ صاحب اہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ ہم کہاں سے خرچ کریں؟ میں نے عرض کیا کہ ایک روپیہ ہے؟ اور ایک روپیہ میں سے ایک پائی نکال سکتے ہو؟ فقیر سے فقیر آدمی کے پاس بھی ایک روپیہ ضرور ہوتا ہے، اور ایک روپیہ میں سے ایک پیسہ نکالنے میں کوئی بڑی کمی نہیں ہو جائے گی؟ بس ایک پیسہ نکال دو۔ تو اس شخص کے ایک پیسہ نکالنے میں اور دوسرے شخص کے ایک لاکھ میں سے ایک ہزار نکالنے میں کوئی فرق نہیں۔ اس لئے مقدار کو تہ دیکھو، بلکہ جس وقت جو جذبہ پیدا ہوا، اس پر عمل کرو۔

یہ ہے اپنی اصلاح کا نتیجہ اکسیر۔ بس اپنے آپ کو مٹلانے سے بچاؤ۔ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لئے صحیح راہ پر مال خرچ کرنے کے بڑے راستے پیدا ہو جاتے ہیں، اور مال خرچ کرنے کے فضائل حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔

## کس کا انتظار کر رہے ہو؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْتَ الْأَمْنِيَّةِ، أَوْ فَقْتَ مَطْغَيَاً أَوْ مَرْضَانًا مُفْسِدًا، أَوْ فَقْتَ مَأْفَتِيَا،

او موتا مجھنَا، او الدجال فشر غائب ينتظـل، او الساعـة،  
فـالساعـة ادھـل وـأمـر۔ او كـما قال صـلـى الله عـلـيـه وـسـلـمـ۔

(ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی المبادرة بالعمل)

یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ”مبادرت الـ اخـیـرات“ یعنی نیک کاموں کی طرف بڑھنے کی جلدی سے فکر کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

﴿بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا﴾

سات چیزوں کے آنے سے پہلے جلد از جلد اچھے اعمال کرو، جس کے بعد اچھا عمل کرنے کا موقع نہ ملے گا، اور پھر ان سات چیزوں کو ایک دوسرے انداز سے بیان فرمایا۔

کیا فقر کا انتظار ہے؟

﴿هُلْ تَشْتَهِرُونَ إِلَّا فَقْرَاءً مُّنْيَّا﴾

کیا تم نیک اعمال کرنے کے لئے ایسے فقر و فاقہ کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والا ہو؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت تمہیں خوش حالی میرے ہے، روپیہ پیسہ پاس ہے، کھانے پینے کی سُکھی نہیں ہے، اور عیش و آرام سے زندگی بسرا ہوئی ہے۔ ان حالات میں اگر تم نیک اعمال کو ثالث رہے ہو تو کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب موجودہ خوش حالی دور ہو جائے گی، اور خدا نہ کرے فقر و فاقہ آجائے گا، اور اس فقر و فاقہ کے نتیجے میں تم اور چیزوں کو بھول جاؤ گے تو اس وقت نیک اعمال کرو گے۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس

خوش حالی کے زمانے میں تو عیش ہیں، اور مزے ہیں، اور پھر جب دوسرا وقت آئے گا، تو اس میں نیک عمل کریں گے، تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ جب مالی تسلی آجائے گی تو اس وقت نیک اعمال سے اور دور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ ضروری کام بھی بھول جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے اور تمہیں مالی پریشانی لاحق ہو، معاشی طور پر تسلی کا سامنا ہو، اس سے پہلے پہلے جو کچھ تمہیں خوش حالی میسر ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو نیک عمل میں صرف کرو۔ آگے فرمایا:

### کیا مالداری کا انتظار ہے؟

﴿أَوْغُثِيْ مُطْفِيْا﴾

یا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو انسان کو سرکش بنادے؟ یعنی اگر اس وقت بست زیادہ مالدار نہیں ہو اور یہ خیال کر رہے ہو کہ ابھی ذرا مالی تسلی ہے یا یہ کہ مالی تسلی تو نہیں ہے لیکن دل یہ چاہ رہا ہے کہ ذرا اور پیسے آجائیں، اور دولت مل جائے، تب نیک اعمال کریں گے۔ یاد رکھو! اگر مالداری زیادہ ہو گئی، اور پیسے بہت زیادہ آگئے، اور دولت کے انبار جمع ہو گئے تو اس کے نتیجے میں اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال و دولت تمہیں اور زیادہ سرکشی میں جتلائے۔ اس لئے کہ انسان کے پاس جب مال زیادہ ہو جاتا ہے، اور عیش و آرام زیادہ میسر آ جاتا ہے وہ خدا کو بھلا بیٹھتا ہے۔ لہذا جو کچھ کرنا ہے ابھی کرو۔

## کیا بیماری کا انتظار ہے؟

(﴿أَوْ مَرَضًا مُّفِيدًا﴾)

یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری صحت کو خراب کر دے؟ یعنی اس وقت تو صحت ہے، طبیعت ٹھیک ہے۔ جسم میں طاقت اور قوت ہے۔ اگر اس وقت کوئی عمل کرنا چاہو گے تو آسانی کے ساتھ کر سکو گے، تو کیا نیک عمل کو اس لئے ملارہ ہے ہو کہ جب یہ صحت رخصت ہو جائے گی اور خدا نہ کرے جب بیماری آجائے گی تو پھر نیک عمل کریں گے۔ ارے جب صحت کی حالت میں نیک عمل نہیں کر پائے تو بیماری کی حالت میں کیا کرو گے؟ اور پھر بیماری خدا جانے کیسی آجائے، اور کس وقت آجائے، تو قبل اس کے کہ وہ بیماری آئے، نیک عمل کرلو۔

## کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟

(﴿أَوْ هَرَهْ مَا مَفِيدًا﴾)

یا تم سہیا دینے والے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ اور یہ خیال کر رہے ہو کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ اس جوانی کے زمانے کو ذرا عیش اور لذتوں کے ساتھ گزر جانے دو، پھر نیک عمل کر لیں گے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ہیں کہ کیا تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ حالانکہ بعض اوقات بڑھاپے میں انسان کے حواس خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، تو قبل اس کے کہ بڑھاپے کا دور آئے اس سے پہلے نیک

عمل کرلو۔ بڑھاپے میں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ منہ میں دانت اور نہ پیٹ میں آنت، اور اب گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ رہی، اس وقت اگر گناہ سے فجی بھی گئے تو کیا کمال کر لیا؟ جب جوانی ہو، طاقت موجود ہو، گناہ کرنے کے سامان موجود ہوں، گناہ کرنے کے اسباب موجود ہوں، گناہ کرنے کا جذبہ دل میں موجود ہو، اس وقت اگر انسان گناہ سے فجی جائے تو درحقیقت یہ ہے پیغمبرانہ طریقہ۔ چنانچہ اسی کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں ۔

کہ وقت پیری گرگ ظالم میشوڈ پرہیز گار  
در جوانی توبہ کردن شیوه پیغمبری است

اڑے بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیز گار بن جاتا ہے۔ وہ اس لئے پرہیز گار نہیں بنتا کہ اس کو کسی اخلاقی فلسفے نے پرہیز گار بنادیا، یا اس کے دل میں خدا کا خوف آگیا، بلکہ اس لئے پرہیز گار بن گیا کہ اب کچھ کری ہیں سکتا، کسی کو چیرپھاڑ کر کھا نہیں سکتا، اب وہ طاقت ہی باقی نہیں رہی، اس لئے ایک گوشہ کے اندر پرہیز گار بنایا ہے۔ یاد رکھو! جوانی کے اندر توبہ کرنا، یہ ہے پیغمبری کا شیوه، یہ ہے پیغمبروں کا شعار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھئے کہ بھرپور جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، حالات میسر ہیں، اور گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت زبان پر یہ کلمہ آتا ہے :

مَعَاذُ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّنَا حُسْنَ مُثُواي (سورۃ یوسف: ۲۳)

”میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں“ -

یہ ہے پیغمبری کا شیوه، کہ انسان جوانی کے اندر گناہ سے تائب ہو جائے، جوانی کے اندر انسان نیک عمل کرے۔ بڑھاپے میں تو اور کوئی کام بن نہیں

پڑتا، ہاتھ پاؤں چلانے کی سکت ہی نہیں۔ اب گناہ کیا کرے؟ گناہ کے موقوع ہی ختم ہو گئے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو تب نیک عمل کریں گے، تب نماز شروع کریں گے، اس وقت اللہ کو یاد کریں گے۔ اگرچہ فرض ہو گیا تو یہ سوچتے ہیں کہ جب عمر زیادہ ہو جائے گی، تب جائیں گے۔ خدا جانے کتنے دن کی زندگی باقی ہے؟ کتنی مہلت طی ہوئی ہے؟ بڑھا پا آتا ہے یا نہیں، اگر بڑھا پا آبھی گیا تو معلوم نہیں اس وقت حالات ساز گار ہوں، یا نہ ہوں۔ اس لئے اسی وقت کر گزرو۔

### کیا موت کا انتظار ہے؟

﴿آفَمَنْتَامُجِهُشَا﴾

یا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آجائے۔ ابھی تو تم نیک اعمال کو مثلا رہے ہو کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کچھ اور وقت گزر جائے تو شروع کر دیں گے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ موت اچانک بھی آسکتی ہے۔ بعض اوقات تو موت پیغام دیتی ہے، الٹی میثم دیتی ہے۔ لیکن بعض اوقات بغیر الٹی میثم کے بھی آجاتی ہے اور آج کی دنیا میں توحادیات کا یہ عالم ہے کہ کچھ معلوم نہیں، کس وقت انسان کے ساتھ کیا ہو جائے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نوٹیں بھیجتے ہیں۔

### ملک الموت سے ملاقات

ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کی ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہو گئی (خدا معلوم کیسی حکایت ہے، لیکن بہر حال عبرت کی حکایت ہے) تو اس نے حضرت عزرا ملک علیہ السلام سے کہا کہ جتاب : آپ کا بھی عجیب

معاملہ ہے، جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آدمیکتے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی سزا دینی ہو تو پہلے سے اس کو نوش دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اس کے لئے تیار ہو جانا۔ اور آپ تو نوش کے بغیر چلے آتے ہیں۔ حضرت عزرا نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا : ارسے بھائی! میں تو اتنے نوش دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا ہو گا۔ مگر اس کا کیا علاج کر کوئی نوش سنتا ہی نہیں؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جب بخار آتا ہے تو وہ میرا نوش ہوتا ہے، جب سر میں درد ہوتا ہے وہ میرا نوش ہوتا ہے، جب بڑھا پا آتا ہے وہ میرا نوش ہوتا ہے، جب سفید بال آجائے ہیں وہ میرا نوش ہوتا ہے، جب آدمی کے پوتے پیدا ہو جاتے ہیں وہ میرا نوش ہوتا ہے، تو میں تو مسلسل نوش بھیجا رہتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ تم سنتے ہی نہیں۔ یہ ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوش ہیں کہ دیکھو! وقت آنے والا ہے،

قرآن کریم میں فرماتے ہیں :

أَوْلَمْ نُعِذْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَهُ كُمُّ النَّذِيرِ.

(سورہ فاطر: ۳۷)

”یعنی آخرت میں ہم تم سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت ساصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آگیا تھا۔“

یہ کون ڈرانے والا آیا تھا؟ اس کی تغیریں بعض مفترین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگر لوگوں کو ڈرانا یا کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے

سامنے پیش ہونا ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”نذری“ سے مراد سفید بال ہیں، جب سر میں یا داؤ ہمی میں سفید بال آگئے تو یہ ”نذری“ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہے کہ اب وقت قریب آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”نذری“ سے مراد ”پوتا“ ہے کہ جب کسی کے یہاں پوتا پیدا ہو جائے تو یہ پوتا ”نذری“ ہے، ڈرانے والا ہے کہ اب وقت آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اسی کو کسی عربی شاعر نے ایک شعر میں لطم کر دیا ہے کہ ۔

اذا الرجال ولدت أولادها  
وبليت من كبر أجسادها  
وجعلت أسمامها تعتادها  
تلث زروع قد ناحصادها

یعنی جب انسان کی اولاد کی اولاد پیدا ہو جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا بدن پرانا ہو جائے۔ اور بیماریاں کیے بھد دیگرے آنے لگیں، کبھی ایک بیماری، کبھی دوسری بیماری، ایک بیماری ٹھیک ہوئی تو دوسری آگئی، تو سمجھ لو کہ یہ وہ کھیتیاں ہیں جن کی کٹائی کا وقت آگیا ہے۔ بہر حال! سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوش ہیں۔ اگرچہ عادت اللہ یہی ہے کہ یہ نوش آتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات موت اچانک بغیر نوش کے بھی آجاتی ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ہیں کہ تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو نوش دیئے بغیر اچانک آجائے۔ کیا معلوم کہ کتنے سانس ابھی باقی ہیں۔ اس کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا :

## کیا دجال کا انتظار ہے؟

### آوازِ دجال

کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ اور یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی تو زمانہ نیک عمل کے لئے سازگار نہیں ہے۔ تو کیا دجال کا زمانہ سازگار ہو گا؟ جب دجال ظاہر ہو گا تو کیا اس فتنے کے عالم میں نیک عمل کر سکو گے؟ خدا جانے اس وقت کیا عالم ہو، گراہی کے کیسے حرکات اور دواعی پیدا ہو جائیں، تو کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ فشر غائبِ نظر، یعنی دجال آن دیکھی چیزوں میں بدترین چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کرو۔ اور آخر میں فرمایا:

### کیا قیامت کا انتظار ہے؟

(آوازِ ساعتہ۔ فال ساعۃ اذھی وَ آمِز)

یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو من رکھو کہ قیامت جب آئے گی تو اتنی مصیبت کی چیز ہو گی کہ اس مصیبت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہو گا۔ لہذا اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کرو۔

ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو ملاو نہیں، اور آج کے نیک عمل کو کل پرست چھوڑو، بلکہ جب نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو، اس پر فوراً ابھی عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَ أَخْرُدُّ عَوْنَانَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# سفارش

جئش مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



مطبوع و ترتیب  
مطبعہ اشٹرین

میجن اسلامک پبلیشورز

۱۸۸۱-یا تاں آباد، کراچی



# سُفَارَش

الحمد لله خمده ونستعينه ونستغفره ونؤمّن به ونتوكل عليه ونوعده  
 بآياته من شرور أنفسنا ومرت سیثات اعمالنا، من يهدى الله فلامضل له ومرت  
 يضلله فلا هادى له - واسْهَدَنَ لِلَّهِ إِلَّاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاسْهَدَنَ سَيِّدَنَا وَ  
 سَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَاصْحَابِهِ  
 وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا -

عن أبي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم  
 إذا أتي طالب حاجة قبل على جلسة فقال أشفعوا توجروا

(صحیح بندری، کتاب الزکوة، باب الحجریف علی العدقة والثغرة فیها، حدیث نمبر ۱۳۳۲)

## حاجت مند کی سفارش کر دو

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی حاجت مند اپنی ضرورت لے کر آتا، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے کوئی درخواست کرتا تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے کہ تم اس حاجت مند کی بھروسے سفارش کر دو کہ "آپ اس کی حاجت پوری کر دیں" تاکہ تمہیں بھی سفارش کا اجر و ثواب مل جائے۔ البتہ فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر وہی کرائے گا جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے۔ یعنی تمہاری سفارش کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ تو میں نہیں کرو گا۔ فیصلہ تو وہی کرو نگا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گا۔ لیکن تم جب سفارش کرو گے تو سفارش کرنے کا ثواب تم کو بھی مل جائے گا۔ اس لئے تم سفارش کرو۔

## سفارش موجب اجر و ثواب ہے

اس حدیث میں درحقیقت اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ایک مسلمان کے لئے کسی دوسرے مسلمان بھلائی کی سفارش کرنا، تاکہ اس کا کام بن جائے۔ یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور اسی کی ترغیب دینی مقصود ہے کہ ایک مسلمان کو چاہئے کہ وہ دوسرے مسلمان بھلائی کی خیر خواہی میں میں لگا رہے۔ اور اس کی حاجت روائی میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے۔ وہ کرے اور اس کی سفارش سے اس کا کوئی کام بن سکتا ہے تو اس کی سفارش کرے اور اس سفارش کرنے کا انشاء اللہ اس کو اجر ملے گا۔ اس سے سفارش کے عمل کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ اپنی سفارش کرنا برا بادعث اجر و ثواب ہے، اور اسی وجہ سے بزرگوں کے یہاں اس کا برا معمول رہا کہ جب کوئی حاجت مند آ کر سفارش کرتا تو وہ عموماً اس کی سفارش کر دیتے۔ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے سفارش کر کے اس پر بہت بد احسان کر دیا، بلکہ اپنے

لئے باعث سعادت سمجھتے تھے۔

## ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمة اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے۔ غالباً حضرت شاہ عبد القادر صاحب ”کا واقعہ“ ہے۔ نام صحیح طور پر یاد نہیں۔ ایک شخص ان بزرگ کی خدمت میں آیا۔ اور کہا کہ حضرت! میرا ایک کام رکا ہوا ہے، اور فلاں صاحب کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ اس سے کچھ سفارش فرمادیں تو میرا کام بن جائے، تو حضرت” نے فرمایا جن صاحب کا تم نام لے رہے ہو۔ وہ میرے بہت سخت مخالف ہیں۔ اور مجھے اندر شہر ہے کہ اگر میری سفارش ان تک پہنچ گئی تو اگر وہ تمہارا کام کرتے ہوئے بھی ہوں گے تو بھی نہیں کریں گے، میں تمہاری سفارش کر دیتا، لیکن میری سفارش سے فائدہ ہونے کے بجائے الناقصان ہونے کا اندر شہر ہے۔ لیکن وہ شخص ان بزرگ کے پیچھے ہی پڑ گیا، کہنے لگا بس! آپ لکھ دیجئے، اس لئے لگا رچہ وہ آپ کا مخالف ہے، لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ امید ہے کہ وہ اس کو رد نہیں کریں گے، ان بزرگ نے مجبور ہو کر ان کے نام ایک پرچہ لکھ دیا، جب وہ شخص پرچہ لے کر وہاں پہنچا تو ان بزرگ کا جو خیال تھا کہ یہ میرا مخالف ہے، اور کام کرتا ہوا بھی ہو گا تو نہیں کرے گا۔ وہ خیال صحیح ثابت ہوا۔ اور بجائے اس کہ وہ اس پرچہ کی کچھ قدر کرتا، یا اس پر عمل کرتا، اس اللہ کے بندے نے ان بزرگ کو گالی دے دی، اب وہ شخص ان بزرگ کے پاس واپس آیا، اور آکر کر کما کر حضرت! آپ کی بات سچی تھی۔ واقعہ بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر اور احترام کرتا، اس نے تو اتنی گالی دے دی، ان بزرگ نے فرمایا کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کام بنادے۔

## سفردش کر کے احسان نہ جتناۓ

معلوم ہوا کہ سفردش کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، بشرطیکہ اس سے کسی اللہ کے بندے کو فائدہ پہنچانا اور ثواب حاصل کرنا مقصود ہو۔ احسان جتناۓ مقصود نہ ہو کہ فلاں وقت میں نے تمدرا کام بنادیا تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو کہ اللہ کے ایک بندے کے کام میں میں نے تھوڑی سے مدد کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس پر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس نقطے نظر سے جو سفارش کی جائے۔ وہ بہت باعث اجر و ثواب ہے۔

## سفردش کے احکام

لیکن سفارش کرنے کے کچھ احکام ہیں۔ کس موقع پر سفردش کرنا جائز ہے اور کس موقع پر جائز نہیں؟ سفردش کا مطلب کیا ہے؟ سفردش کا نتیجہ کیا ہوتا چاہئے؟ کس طرح سفارش کرنی چاہئے؟ یہ سالی باتیں سمجھنے کی ہیں، اور ان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے سفارش، جو بہت اچھی چیز بھی تھی۔ فائدہ مند اور باعث اجر و ثواب چیز تھی۔ اللہ باعث گناہ بن رہی ہے۔ اور اس سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے۔ اس لئے ان احکام کو سمجھنا ضروری ہے۔

## نااصل کیلئے منصب کی سفارش

پہلی بات یہ ہے کہ سفردش ہمیشہ ایسے کام کی ہونی چاہئے جو جائز اور برحق ہو۔ کسی ناجائز کام کے لئے یا ناخن کام کے لئے سفردش کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ فلاں منصب اور فلاں عمدہ کا اہل نہیں ہے۔ اور اس نے اس عمدہ کے حصول کے لئے درخواست دے رکھی ہے۔ اور آپ کے پاس سفردش کے لئے آتا ہے، لیکن آپ نے صرف یہ دیکھ کر کہ یہ ضرورت مند ہے۔ سفردش لکھ دی کہ اس کو فلاں منصب پر فائز کر دیا جائے، یا

فلاں نلازمت اس کو دے دی جائے، تو یہ سفلدش ناجائز ہے۔

### سفلدش، شہادت اور گواہی ہے

اس لئے کہ سفلدش جس طرح اس شخص کی حاجت برداری کا ایک ذریعہ ہے۔ وہاں ساتھ ساتھ ایک شہادت اور گواہی بھی ہے۔ جب آپ کسی شخص کے حق میں سفلدش کرتے ہیں تو آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میری نظر میں یہ شخص اس کام کے کرنے کا ملک ہے، لہذا میں آپ سے یہ سفلدش کرتا ہوں کہ اس کو یہ کام دے دیا جائے۔ تو یہ ایک گواہی ہے، اور گواہی کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ واقعہ کے خلاف نہ ہو، اگر آپ نے اس شخص کے بدلے میں لکھ دیا، اور حقیقت میں وہ ناہل ہے تو گواہی حرام ہوئی۔ اور باعث ثواب ہونے کے بعد ائمہ الشافعیہ بن گنی، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کی ناہلی کے باوجود آپ کی سفلدش کی بنیاد پر اس کو اس عمدہ پر رکھ لیا گیا، اور اپنی ناہلی کی وجہ سے اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا، یا کوئی غلط کام کیا۔ تو سdale نقصان اور غلط کاموں کے وباں کا ایک حصہ سفلدش کرنے والے پر بھی آئے گا۔ کیونکہ اس ناہل کے اس عمدہ تک پہنچنے میں یہ سبب بنا ہے۔ لہذا یہ سفلدش بھی ہے۔ اور گواہی بھی ہے۔ اور ناجائز کام کے لئے سفلدش کرنا اور گواہی دینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

### متحن سے سفارش کرنا

کسی زمانہ میں میرے پاس یونورٹی سے ایم اے اسلام اسٹڈیز کے پرچے جانپھنے کیلئے آجایا کرتے تھے۔ اور میں لے بھی لیا کرتا تھا، لیکن لینے کیا شروع کئے کر اسکے نتیجے میں لوگوں کی قتلالگ گئی، کبھی کوئی نیلیفون آرہا ہے کبھی کوئی آدمی آرہا ہے۔ اور آدمی بھی ایسے جو بظاہر بڑے دیانتدار اور امانت دار، اور اللہ قسم کے لوگ باقاعدہ میرے پاس اسی مقصد کے لئے آتے، اور ان کے ہاتھوں میں نمبروں

کی ایک فرست ہوتی، اور آکر کہتے کہ ان نمبر والوں کا ذرا خاص خیل رکھئے گا۔

### سفردش کا ایک عجیب واقعہ

ایک مرتبہ ایک بڑے عالم شخص بھی اس طرح نمبروں کی فرست لے کر آگئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت! یہ تو بڑی غلط اور ناجائز بات ہے کہ آپ یہ سفردش لے کر آگئے ہیں۔ انشاء اللہ حق و انصاف کے مطابق جو جتنے نمبر کا متحن ہو گا اتنے نمبر لگائے جائیں گے۔ جواباً نبیوں نے فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھ دی:

مَنْ يَشْعَثُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُونُ لَهُ تِصْيَبٌ مِّنْهَا (سورۃ الشارح: ۸۵)

### مولوی کا شیطان بھی مولوی

ہمارے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے۔ عام آدمی کا شیطان تو دوسروں طریقوں سے بکاتا ہے۔ اور جو شیطان مولوی کو بہکاتا ہے، وہ مولوی بن کر بہکاتا ہے۔

ان عالم صاحب نے اس آیت سے استدلال کیا کہ قرآن کریم میں ہے کہ سفردش کرو، اس لئے کہ سفارش بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اس لئے میں سفردش لے کر آیا ہوں۔ خوب سمجھ لجئے کہ یہ سفارش جائز نہیں۔

### سفردش سے منصف کا ذہن خراب نہ کریں

کسی قاضی اور نجی کے پاس تصییر کے لئے کوئی فیصلہ درپیش ہے، اور اس کے سامنے فریقین کی طرف سے گواہیاں پیش ہو رہی ہیں۔ اس وقت میں اگر کوئی یہ سفردش کرے کہ فلاں کا ذرا خیل رکھئے گا۔ یا فلاں کے حق میں فیصلہ کر دیجئے گا۔ تو یہ سفارش جائز نہیں۔ اور جو متحن امتحان لے رہا ہے اس کے پاس بھی سفردش لے کر جانا جائز نہیں۔ اس واسطے کہ اس سفردش کے نتیجے میں اس کا ذہن

خراب ہو سکتا ہے۔ اور وہ قاضی تو اسی کام کے لئے بیٹھا ہے کہ دونوں طرف کے معالات کو تول کر پھر اپنا فیصلہ دے کہ کون حق پر ہے اور کون ناقص پر ہے۔

### عدالت کے بجھ سے سفلدش کرنا۔

اس لئے شریعت میں اس کا بہت اہتمام کیا گیا کہ جب ایک قاضی کے سامنے کوئی مقدمہ درپیش ہو، تو اس قاضی کے لئے حکم یہ ہے کہ اس مقدمہ سے متعلق کسی ایک فریق کی بات دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں نہ سنے، جب تک دونوں فریق موجود نہ ہوں۔ کیمیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص نے آکر آپ کو تھلکی میں معاملہ بتادیا اور دوسرا آدمی اس سے بے خبر ہے، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور وہ بات آپ کے ذہن پر مسلط ہو گئی، اور آپ کا ذہن اس سے متاثر ہو گیا تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اس واسطے جب معاملہ قاضی کے پاس چلا جائے تو اس کے بعد سفلدش کا دروازہ بند۔

### سفلدش پر میرار د عمل

میرے پاس بھی کچھ مقدمات آجاتے ہیں۔ اور ان مقدمات سے متعلق بعض لوگ میرے پاس چونچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ درپیش ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیں، تو میں کبھی ان کی بات نہیں سنتا، اور یہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے لئے اس مقدمہ سے متعلق آپ کی کوئی بات سننا اس وقت تک شرعاً جائز نہیں جب تک کہ دوسرا فریق بھی سامنے موجود ہو، لہذا آپ کو جو کچھ کہنا ہو آپ عدالت میں آکر کہتے، تاکہ دوسرا فریق بھی سامنے موجود ہو، اور اس کی موجودگی میں بات کی جائے اور سنی جائے، تاکہ آگر آپ کوئی غلط بات کیسی تو وہ اس کا جواب دے سکے، یہاں تھلکی میں آگر آپ میرے ذہن کو خراب کر جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب! ہم تو ناجائز سفارش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو بالکل جائز بات لے کر آئے ہیں۔

ارے بھائی! مجھے کیا پتہ کہ جائز لے کر آئے ہو، یا ناجائز لے کر آئے ہو۔ دوسرا فریق بھی موجود ہو، اور اس کے دلائل، اس کی گواہیاں اور شادوتیں بھی سامنے ہوں، اس وقت آمنے سامنے فیصلہ ہو گا۔ بہرحال! علیحدگی میں جا کر اس کے ذہن کو متاثر کرنا جائز نہیں۔

تو ایسے موقع پر یہ کہنا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ”وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يُكْنُنَ لَهُ نِصْيَبٌ مِّنْهَا“ یہ کسی طرح بھی جائز نہیں چونکہ ہم لوگ عرصہ دراز سے اسلام کا نظام قضاء ختم ہو گیا ہے۔ اس لئے یہ مسائل بھی لوگوں کو یاد نہیں رہے۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے علماء بھی بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ ان کی طرف سے بھی سفلدش آجلی ہے۔

سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ سفلدش ایسی جگہ کرنی چاہئے جہاں سفلدش جائز ہے۔

### بری سفارش گناہ ہے

دوسری بات یہ ہے کہ سفلدش ایسے کام کے لئے ہونی چاہئے جو کام شرعاً جائز ہو، لہذا ناجائز کام کرانے کے لئے سفارش کرنا کسی حال میں جائز نہیں۔ مثلاً آپ کا دوست کمیں افسر لگا ہوا ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں اختیادات ہیں۔ اور آپ نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی ناہل کو بھرتی کرایا تو یہ جائز نہیں، بلکہ ترام ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں جہاں اچھی سفلدش کو باعث اجر قرار دیا گیا ہے وہاں بری سفلدش کو باعث گناہ قرار دیا گیا ہے، فرمایا:

”وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يُكْنُنَ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا“

(سورہ تہاء: ۸۵)

جو شخص بری سفلدش کرے گا تو اس سفارش کرنے والے کو بھی اس گناہ میں سے حصہ ملے گا۔

## سفرش کا مقصد صرف توجہ دلانا

یہ بات تو اہم ہے ہی، اور لوگ اعتمادی طور پر اس کو جانتے بھی ہیں کہ ناجائز سفرش نہیں کرنی چاہئے ..... لیکن اس سے بھی آگے ایک اور مسئلہ ہے۔ جس کی طرف عموماً دھیان نہیں۔ اور آج کل لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ آج کل سفرش کی حقیقت نہیں سمجھتے سفارش کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس سفرش کی جلدی ہے اس کو صرف توجہ دلانا ہے۔ یعنی اس کے علم اور ذہن میں ایک بات نہیں ہے، آپ نے اپنی سفرش کے ذریعے یہ توجہ دلادی کہ یہ بھی ایک موقع ہے۔ اگر تم کرنا چاہو تو کرو، سفرش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس پر دباؤ اور پریشرڈ لا جائے کہ وہ یہ کام ضرور کر لے، اس لئے کہ ہر انسان کے اپنے کچھ حالات ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ قواعد اور ضوابط اور اصول ہوتے ہیں، اور وہ آدمی ان اصولوں کے تحت رہ کر کام کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے سفرش کر کے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور دباؤ ڈال کر اس سے کام کرانا چلا، تو یہ سفرش نہیں، زبردستی ہے، اور کسی بھی مسلمان کے اوپر زبردستی کرنا جائز نہیں، اس کا عام طور پر لوگ خیال نہیں کرتے۔

ایسے آدمی کی سفرش لے کر جائیں گے جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ جب اس کی سفرش جائے گی تو وہ انکار نہ کر سکے گا، یہ تو دباؤ ڈالا جلد ہا ہے، اور شخصیت کا وزن ڈالا جلد ہا ہے۔ یہ سفرش نہیں ہے۔

یہ تو دباؤ ڈالنا ہے

کہنی لوگ میرے پاس بھی سفرش کرانے آ جاتے ہیں، ایک صاحب آئے، اور آکر کہا کہ حضرت! آپ سے ایک کام کے لئے کہنا ہے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ انکار تو نہیں کریں گے؟ گویا اس کا قرار پہلے لینا چاہتے ہیں کہ انکار مت

تیجئے گا، میں نے کہا: بھل! پسلے یہ بتاؤ تو سی کہ کیا کام ہے؟ وہ کام میری قدرت میں ہے یا نہیں؟ میری استطاعت میں ہے یا نہیں؟ میں اس کو کر سکوں گا یا نہیں؟ جائز ہو گا یا ناجائز ہو گا؟ پسلے یہ بتاؤ تو سی۔ لیکن پسلے یہ اقرار لینا چاہتے ہیں کہ آپ پسلے یہ طے کر لیں کہ اس کام کو ضرور کریں گے۔ یہ سفارش نہیں ہے۔ بلکہ یہ دباؤ ڈالنا ہے۔ جو جائز نہیں۔

### سفراش کے بعدے حضرت حکیم الامت "کافرمان

ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بند فرمائے۔ آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کی صحیح فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور دین کے مخفی گوشوں کو انسوں نے جس طرح آشکارہ فرمایا، اور ملغو نات میں جگہ جگہ اس پر تنبیہ فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ سفارش اس طرح نہ کرو جس سے دوسرا آدمی مغلوب ہو جائے۔ جس سے دباؤ پڑے، یہ سفارش جائز نہیں، اس لئے کہ سفارش کی حقیقت "توجہ دلانا" ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص حاجت مند ہے، اور میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ اچھا مصرف ہے۔ اس پر اگر آپ کچھ خرچ کر دیں گے تو انتاء اللہ اجر و ثواب ہو گا۔ یہ نہیں کہ اس کام کو ضرور کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو میں ناراض ہو جائز گا، خفا ہو جاؤں گا، یہ سفارش نہیں ہے۔ یہ دباؤ ہے۔

### مجموع میں چندہ کرنا درست نہیں

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے یہی بات چندہ کے بارے میں بیان فرمائی کہ اگر مجمع کے اندر چندہ کا اعلان کر دیا کہ فلاں کام کے لئے چندہ ہو رہا ہے۔ چندہ دیں۔ اب جناب! جس شخص کا چندہ دینے کا دل بھی نہیں چلا رہا ہے، اب اس سے دوسروں کو دیکھ کر شرعاً شرمندی میں چندہ دے دیا، اور یہ سوچا کہ اگر نہیں دیا تو تاک کٹ جائے گی۔ تو چونکہ وہ چندہ اس نے خوش سے نہیں دیا، اور حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”لا يحل مال امرأٍ مسلم الا بطيب نفس منه“  
”کسی مسلم کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں“

(بیان الارشاد، ص ۲۷۱ ج ۳۔ بحوالہ مندرجہ یہ بعلت)

اگر کسی نے زبان سے مال لینے کی اجازت بھی دے دی ہو، لیکن وہ مال اس نے خوش دلی سے نہیں دیا تو وہ حلال نہیں۔ لہذا اس طریقے سے چندہ کرنا جائز نہیں۔

### مدرسہ کے مہتمم کا خود چندہ کرنا

حضرت والارحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چندہ وصول کرنے کے لئے کسی بڑے مولانا صاحب کو ساتھ لے گئے۔ یا کوئی بڑے مولانا صاحب یا مدرسہ کے مہتمم خود چندہ وصول کرنے کسی کے پاس چلے گئے۔ تو ان کا خود چلا جاتا بذات خود ایک دباؤ ہے، کیونکہ سامنے والا شخص یہ خیال کرے گا کہ یہ تو بڑے مولانا صاحب خود آئے ہوئے ہیں۔ اب میں ان کو کیسے انکار کروں۔ اور چنانچہ دل نہ چاہنے کے باوجود اس کو چندہ دیا۔ یہ چندہ وصول کرنا جائز نہیں۔

### سفراش کے الفاظ کیا ہوں؟

یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ سفراش کا انداز دباؤ ڈالنے والا نہ ہو۔ اسی لئے حضرت تکیم الامت قدس اللہ سرہ جب کسی کے نام سفراش لکھتے تو اکثر وہ بیشتر یہ الفاظ لکھتے کہ ”میرے خیال میں یہ صاحب اس کام کے لئے موزوں ہیں، اگر آپ کے اختیار میں ہو، اور آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہو تو ان کا کام کر دیجئے“ اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی الفاظ میں سفراش لکھتے تھے۔

دو چند مرتبہ ہمیں بھی سفارش لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو چونکہ حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ سے یہ بات سنی ہوئی تھی۔ اور حضرت تھانویؒ کے مواعظ بھی دیکھئے ہوئے تھے، اس لئے میں نے بھی وہی جملے سفارش کے اندر لکھ دیئے کہ ”اگر یہ کام آپ کے اختیار میں ہو، اور آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہو تو ان کا یہ کام کر دیجئے“ تیجہ یہ ہوا کہ جن صاحب کی سفارش لکھی تھی وہ نہ راض ہو گئے۔ ”اور کہنے لگے کہ“ یہ آپ نے قیدیں اور شرطیں کیوں لگادیں کہ اگر مصلحت کے خلاف نہ ہو تو کر دیجئے۔ آپ کو تو سیدھا سارہ لکھنا چاہئے تھا کہ ”یہ کام ضرور کر دیجئے“ ان الفاظ کے بغیر تو یہ سفارش ناہمکمل ہے۔

### سفارش میں دونوں طرف کی رعایت

لیکن جس شخص کو دونوں طرف کی رعایت کرنی مقصود ہے۔ ایک طرف اس کو جائز حدود میں رہتے ہوئے حاجت مند کی مدد بھی مقصود ہے۔ اور دوسری طرف اس کی بھی رعایت کرنی ہے جس کے پاس سفارش کی گئی ہے، اور اس پر بھی بوجھ نہیں ڈالنا کہ کہیں وہ یہ خیال نہ کرے کہ صاحب! اتنے بڑے صاحب کا پرچہ آگیا ہے۔ اب میرے لئے اس کا مالنا ممکن نہیں۔ اگرچہ یہ کام میری مصلحت کے خلاف، میرے اصول کے خلاف، اور میرے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ اتنے بڑے آدمی کا پرچہ آگیا ہے اب میں کیا کروں؟ لہذا ب وہ کشمکش اور مصیبت میں بنتا ہو گیا۔ اگر سفارش کے مطابق عمل کیا تو اپنے قواعد اور اصول کے خلاف کیا، اور اگر سفارش کے مطابق عمل نہ کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ اتنے بڑے صاحب نہ راض ہو جائیں گے۔ اور پھر ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ کہیں گے کہ میں نے ایک ذرا سے کام کی سفارش کی تھی، اور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا۔ یہ سب سفارش کے اصول کے خلاف ہیں

## سفرارش معاشرے میں ایک لعنت

اور اسی وجہ آج سفلدش معاشرے میں ایک لعنت بن گئی ہے آج کوئی کام  
ناجاہز سفلدش کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ سفلدش کے احکام لوگوں نے بھلا  
دیئے ہیں۔ شریعت کے تقاضوں کو فراموش کر دیا ہے۔ لہذا جب ان رعایتوں کے  
ساتھ سفلدش کی جائے گی تب جاہز ہو گی۔

## سفرارش ایک مشورہ ہے

تیری بات یہ ہے کہ سفرارش ایک مشورہ بھی ہے، دباؤ ڈالنا نہیں ہے۔  
آج کل نوگ مشورہ کو نہیں سمجھتے کہ مشورہ کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟  
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے بادے میں فرمایا کہ:

### المستشار موثق

(ابوداؤد، کتاب الارب، باب فی المشورة حدیث نمبر ۵۱۲۸)

جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ یعنی اس کا فرض ہے کہ  
انہی دیانت اور امانت کے لحاظ سے جس بات کو بتتر سے بھر سمجھتا ہو، وہ مشورہ لینے  
والے کو بتا دے، یہ ہے مشورہ کا حق، اور پھر جس کو مشورہ دیا گیا ہے، وہ اس بات  
کا پابند نہیں ہے کہ آپ کے مشورے کو ضرور قبول کرے، اگر وہ رد بھی کر دے  
 تو اس کو اختیار ہے، کیونکہ مشورہ کے معنی بھی یہی ہیں کہ دوسرے کو توجہ دلا دینا۔  
اسی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ  
 سے سفلدش کرو، اور یہ ضروری نہیں کہ میں تمہاری سفلدش قبول بھی کرلوں، بلکہ  
فیصلہ میں وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ  
اگر سفلدش کے خلاف بھی عمل کر لیا جائے تو اس سے سفلدش کی تقدیری نہیں ہوتی،  
آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب! ہم نے سفارش بھی کی، اور بات کہ کر کھوئی،  
اور فائدہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ حقیقت میں یہ بات نہیں۔ اس لئے کہ سفلدش کا

مقصد تو صرف یہ تھا کہ ایک بھل کی مدد میں میرا حصہ لگ جائے، اور اللہ تبدک و تعلل اس سے راضی ہو جائے۔ اب وہ مقصد حاصل ہو گیا یا نہیں؟ کام ہوا یا نہیں؟ یہ سفلدش کالازی حصہ نہیں، اگر کام نہیں ہوا، اور اس نے آپ کی سفلدش نہیں مانی، تو اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا اور ناراضگی نہیں ہوئی چاہئے۔ اور اس کو بر امانتا بھی درست نہیں۔ اس لئے کہ یہ مشورہ تھا۔ اور مشورہ کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں۔

### حضرت بریرہؒ اور حضرت مغیثؒ کا واقعہ

اب سننے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کی کیا حقیقت بیان فرمائی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے متعلق باریک باریک باتیں تفصیل سے بیان فرمادیں۔ اب یہ بتائے کہ اس دنیا میں، بلکہ پوری کائنات میں کس شخص کا مشورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے زیادہ قابل احترام اور قابل تعییل ہو سکتا ہے؟ لیکن واقعہ سننے، کہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہا کی ایک کنیز تھیں، جن کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا تھا، پہلے یہ کسی اور کی کنیز تھیں، اور اس نے ان کا نکاح حضرت مغیث سے کر دیا تھا..... اور چونکہ اصول یہ ہے کہ اگر آقا اپنی باندی کی کسی سے شادی کر دے تو آقا کو اپنی باندی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ آقا کی ملکیت ہوتی ہے، اس واسطے اس سے اجازت بھی نہیں لی جاتی، بلکہ آقا جس سے چاہے۔ اس کا نکاح کر سکتا ہے، چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے آقا نے "حضرت مغیثؒ" سے کر دیا۔ اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ صورت شکل کے اعتبار سے کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں تھے، بلکہ سیاہ قام تھے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا حسین و جیل خاتون تھیں، اس حالت میں ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عاشر رضی اللہ عنہا نے چلا کہ ان کو خرید کر آزاد کر دیں۔ چنانچہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہا نے ان کو خریدا، اور پھر آزاد کر دیا۔

## باندی کو فتح نکاح کا اختیار

شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہو جائے اور اس کا نکاح پسلے سے کسی کے ساتھ ہو چکا ہو۔ تو آزادی کے وقت اس کنیز کو یہ اختیار ملتا ہے کہ چاہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو قرار رکھے، اور اگر چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے۔ اور فتح کر دے، اور پھر کسی اور سے نکاح کرے۔

## حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ

جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آزاد ہوئیں تو شریعت کے قاعدہ کے مطابق ان کو بھی فتح نکاح کا اختیار مل گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم چاہو تو مغیث سے اپنا نکاح برقرار رکھو، اور چاہو تو اس نکاح کو ختم کر دو۔ انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہتی، اور اپنے نکاح کو فتح کر دیا، اب چونکہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ منظراب تک مجھے نہیں بھولتا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں بہ رہے ہیں۔ اور ان آنسوؤں سے داڑھی بھیگ رہی ہے۔

حضرت بریرہ کی خوشامد کر رہے ہیں، اور ان کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لئے اپنے اس فیصلے کو تبدیل کرلو، اور دوبارہ مجھ سے نکاح کرلو، مگر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مانتی نہیں تھیں۔ آخر کار حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایسا قصہ پیش آیا ہے، چونکہ مجھے ان سے بہت تعلق ہے۔ اور اتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے۔ اب وہ میری بات نہیں مانتیں۔ لذاب آپ ہی ان سے میری کچھ سفلارش فرمادیجئے۔ چنانچہ آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو

بلایا، اور فرمایا کہ:

لوماً اجعیتیه، فانه ابوولدک

(بن ماچ کتب اطلاق، بب خیل الاممۃ لازم العقائد، حدیث نمبر ۲۰۸۵)

اگر تم اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لو تو اچھا ہو، اس لئے کہ وہ تمدے  
نچے کے باپ ہیں بچلے اتنے پریشان ہیں۔ سبحان اللہ! حضرت بریرہ رضی اللہ  
تعالیٰ عنہا نے فوراً سوال کیا۔ یا رسول اللہ! آپ یہ فرمائے ہیں کہ رجوع کرلو، یہ  
آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کی طرف سے یہ حکم ہے تو بیک سرتسلیم خم  
ہے۔ اور میں ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ  
علیہ وسلم نے فرمایا: انہا اشعن

میں یہ صرف سفارش کر رہا ہوں — یہ میرا حکم نہیں ہے، جب  
حضرت بریرہ نے یہ سنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ بلکہ  
صرف سفارش اور مشورہ ہے، تو فوراً فرمایا کہ: یا رسول اللہ! اگر یہ مشورہ ہے، تو اس  
کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آزادی ہے کہ قبول کروں یا نہ کروں۔ لہذا میرا فیصلہ یہی  
ہے کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ  
تعالیٰ عنہا دوبارہ ان کے پاس نہیں گئیں۔ اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔

ایک خاتون نے حضور کا مشورہ رد کر دیا۔

اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے۔  
اور آپ کی سفارش ہے۔ لیکن ایک عورت، جواب تک کنیز تھی، اور آپ کی لمبی  
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے صدقہ سے آزاد ہوئیں، اس کو بھی یہ حق دیا جلدہ  
ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں۔ وہ مشورہ ہے، تمدا دل چاہے تو مانو۔ اور  
تمدے دل نہ چاہے تو نہ مانو، اور رد کر دو، چنانچہ وہ مشورہ ان خاتون نے رد کر  
دیا۔ اور اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنیٰ سی ناگواری کا اطمینان بھی نہیں

فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مشورہ دیا تھا۔ لیکن تم نے ہماری بات نہیں ملی۔ اس کے ذریعہ آپ نے امت کو تعلیم دے دی کہ مشورہ اور سفارش یہ ہے کہ جس کو مشورہ دیا گیا ہے، یا جس سے سفارش کی گئی ہے بس اس کو توجہ دلاتا مقصود ہے، وباڑا ذالنا مقصود نہیں۔

### حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مشورہ دیا؟

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نکاح خود ختم کر دیا، اور وہ ان کے ساتھ رہتا نہیں چاہتیں تو پھر آپ نے سفارش ہی کیوں کی؟

آپ نے سفارش اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مغیث کے اندر سوائے ٹھکل و صورت کے کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر یہ ان کی بات مان لے گی۔ اور دوبارہ ان کے نکاح میں آجائے گی تو ان کو اجر و ثواب بست ہو گا۔ اس لئے کہ اس نے اللہ کے ایک بندے کی خواہش کو پورا کیا۔ اور اس واسطے آپ نے سفارش بھی کر دی۔ لیکن جب انہوں نے سفارش کو قبول نہیں کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنیٰ ناگواری کا انہلہ نہیں فرمایا۔

### امت کو سبق دے دیا

لہذا آپ نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دے دیا کہ مشورہ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھو کر یہ دباڑا جلد ہا ہے، یا الازمی کیا جد ہا ہے۔ بلکہ مشورہ کا حاصل صرف توجہ دلاتا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرے، چاہے نہ کرے۔

### سفارش ناگواری کا ذریعہ کیوں ہے؟

آج ہمارے اندر سفارش اور مشورہ باقاعدہ ناگواری کا ذریعہ بن گئیں ہیں۔ اگر کسی کے مشورہ کو قبول نہ کیا جائے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تو بھلی ایسا

مشورہ دیا تھا۔ لیکن ہماری بات نہیں چلی، ہماری بات نہیں ملنی گئی۔ اس پر بڑا ضرر گی ہو رہی ہے۔ خفا ہو رہے ہیں۔ بر امنا یا جذر ہا ہے۔ اور یہ سوچا جذر ہا ہے کہ اب آئندہ ان سے رابطہ نہیں رکھیں گے۔ اس لئے کہ یہ ہماری بات تو مانتے ہی نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ سفرداش کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمادیں کہ سفرداش کرو، اجر ملے گا۔ لیکن اگر سفرداش قبول نہ کی جائے تو تمہارے دل میں اس کے خلاف کوئی ناراضگی اور بد دلی نہیں پیدا ہوئی چاہے کہ اس نے ہماری بات نہیں ملنی۔ ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر سفرداش کی جائے گی وہ انشاء اللہ بڑے اجر و ثواب کا موجب ہوگی۔

### خلاصہ

ایک مرتبہ پھر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سفرداش ان معاملات میں کریں جن میں سفرداش کرنا جائز ہے۔ جمل سفرداش کرنا جائز نہیں، جیسے مقدمات ہیں، یا امتحانی پر چیزوں کی جائیج کا معاملہ ہے، ان جگہوں پر سفرداش کرنا بھی جائز نہیں۔ دوسرا یہ کہ سفرداش جائز کام کی ہو، ناجائز کام کی نہ ہو، تیسرا یہ کہ سفرداش کا انداز مشورے کا ہو، دباؤ ڈالنے کا نہ ہو، چوتھے اگر مشورہ اور سفرداش نہ مانی جائے تو اس پر کوئی ناراضگی اور ناگواری نہ ہوئی چاہئے۔ ان چل چیزوں کی رعایت کے ساتھ اگر سفرداش کی جائے گی تو سفرداش کی وجہ سے کوئی فساد برپا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ سفرداش اجر و ثواب کا سبب ہو گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمين و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

# روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟

جسٹ مولانا محمد تقی عثمانی ناظرِ علماء العالمی



ضبط و ترتیب  
محمد عبد الشفیع

میجن اسلامک پبلیشورز

۱۸۸/۱۔ یات آباد، کراچی

رذے کے معنی ہیں کہ کھانے پینے سے اجتناب کرنا اور نفسانی خواہات کی تکمیل سے اجتناب کرنا، رذے میں ان تینوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے اب دیکھیں کہ یہ تینوں چیزوں میں کہ جو نفس علال ہیں، کھانا علال پینا حلال اور جائز طریقے سے زدہ بن کا نفسانی خواہات کی تکمیل کرنا علال، اب مذکورے کے دروان آپ ان علال چیزوں سے تو پر بہر کر رہے ہیں۔ زکھاٹے ہیں اور تپی دہے ہیں میکن جو چیزوں پہلے سے حرام مفہوم مثلاً جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بذرگاہی کرنا جو ہر حال میں حرام مفہوم۔ رذے یہ سب چیزوں ہو رہی ہیں اب رذہ رکھا ہو لے اور بذرگاہی کر رہے ہیں اور رذہ رکھا ہو لے لیکن وقت پاس کرنے کے لئے گندی گندی نامیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا یہ رذہ ہوا۔

# روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟

الحمد لله خمده وستعينه وستغفره ونؤمّن به ونتوكل عليه ونوعذ  
بإله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدہ اللہ فلامضل له ومت  
يضلله فلا هادی له - وشهادان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهادان سیدنا و  
سندا ونبينا ومولانا محمد ابا عبد الله رسوله، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ  
وبارک وسلام تسليماً كثیراً - اقام بعد!

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي  
انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم  
الشهر فليصمه.

(سورة بقرة : ١٨٥)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و  
خرف على ذالك من الشهدرين والشکرین والحمد لله رب العالمين -

## برکت والا مہینہ

انشاء اللہ چھر روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور کون مسلمان ایسا ہو گا جو اس مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے۔ اور نہ معلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں۔ جن کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلاً اس مہینے میں روزے فرض ہیں۔ الحمد للہ۔ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جلتی ہے۔ اور تراویح کے بدرے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جلتی ہے، لیکن اس وقت ایک اور پسلوکی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور رات کے وقت تراویح پڑھی جلتی ہے۔ اور بس، اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں۔ لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ درحقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطلبہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(سرہ الذاریات: ۵۶)

یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا، وہ یہ کہ میری عبادت کریں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔

## ”کیا فرشتے کافی نہیں تھے؟“

یہاں بعض لوگوں کو خاص کرنی روشنی کے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا، تو اس کام کے لئے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پلے سے بت اچھی طرح انجام دے رہے تھے؟ اور وہ اللہ کی عبادت، تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمائے کارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے بیساختہ یہ کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں۔ جوز میں میں فساد مچائے گا۔ اور خون ریزی کرے گا، اور عبادت، تسبیح و تقدیس ہم انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اسکے لئے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام تو فرشتے پلے ہی انجام دے رہے تھے۔

## فرشتوں کا کوئی مکمل نہیں

بیشک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اس لئے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے۔ ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی شتم فرمادیا اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ان کے اندر شوائب تقاضہ پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا، گناہ کی خواہش اور گناہ پر اندام تو دور کی بات ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا۔ کیونکہ اگر فرشتے گناہ

نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں۔ اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہو گا۔

### نایمنا کا بچنا کمال نہیں

مثلاً ایک شخص بینلی سے محروم ہے، جس کی وجہ سدی عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی لی وی دیکھا۔ اور نہ کبھی غیر محروم پر نگاہ ڈالی۔ بتائیے کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ظاہر ہوا؟ اس لئے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینلی بالکل ٹھیک ہے۔ جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محروم کی طرف دیکھنے کا تقاضہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ فوراً صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ پہنچ کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے۔ اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے۔ لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں۔ اور دوسرا شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔

### یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے

لہذا اگر ملائکہ صح سے شام تک کھانا کھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں۔ اس لئے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی۔ اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں۔ لہذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر ثواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ لہذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے۔ حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے۔ تب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنى نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء پر یہی اعتراض کیا کہ:

ما لهذا الرسول يا كل الطعام ويمشي في الاسواق

## (سورہ الفرقان : ۷)

یعنی یہ رسول کیسے ہیں جو کھلانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو کھانے کا تقاضہ انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھلانیں کھارہا ہے۔ تو یہ کمل کی بات ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں، جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر شموانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے۔ اور گناہ کرنے کے داعیے بھی ان کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہو گا، اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا۔ اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور جس کا اجر و ثواب اور بدله دینے کے لئے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے۔ جس کی صفت عرضنا السموات والارض ہے۔ اس نے کہ اس کے دل میں داعیہ اور تقاضہ ہو رہا ہے، اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں۔ اور گناہ کے حرکات سامنے آرہے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچایتا ہے۔ اپنے کان کو گناہ سے بچایتا ہے۔ اپنی زبان کو گناہ سے بچایتا ہے۔ اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے۔ تاکہ میراللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی۔ اس عبادت کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا۔

## حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل

حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلخا کے مقابلے میں پیش آیا۔ کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ زلخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اس وقت زلخا کے دل میں بھی گناہ کا خیل پیدا ہوا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیل آگیا۔ عام لوگ

تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض اور ان کی تتفیص بیان کرتے ہیں۔  
حلاںکہ قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ گنہ کا خیل آجائے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے  
خوف اور ان کی عظمت کے استحضار سے اس گنہ کے خیل پر عمل نہیں کیا۔ اور  
اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرتلیم خم کر لیا۔ لیکن اگر گنہ کا خیل بھی دل میں نہ  
آتا۔ اور گنہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی۔ اور گنہ کا تقاضہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ تو پھر  
ہزار مرتبہ زلخا گنہ کی دعوت دے پھر تو کمال کی توکوئی بات نہیں تھی۔ کمال تو یہی تھا  
کہ گنہ کی دعوت دی جائی ہے۔ اور ماحول بھی موجود۔ حالات بھی سازگار، اور  
دل میں خیل بھی آ رہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے  
سرتلیم خم کر کے فرمایا کہ ”معذل اللہ“ کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت  
ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ (سورہ یوسف: ۲۳)

### ہماری جانوں کا سودا ہو چکا ہے

جب انسان کا متصدیر تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضہ یہ تھا کہ جب انسان  
دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے،  
اور اس کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہوئی چاہئے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن  
کریم نے فرمایا کہ:

اَنَّ اللَّهَ اَنْشَطَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بَاتِ لَهُمُ الْجَنَّةُ  
(سورة التوبہ: ۱۱۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مل خرید لئے۔ اور  
اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ جب ہماری جانیں  
بکچلی ہیں۔ تو یہ جانیں جو ہم لئے بیٹھے ہیں۔ وہ ہماری نہیں ہیں۔ بلکہ بکا ہو امیل  
ہے۔ اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اس کا تقاضہ یہ تھا کہ  
اس جان اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ لہذا

اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں صبح سے شام تک دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں۔ بس صرف سجدے میں پڑے رہا کرو۔ اور اللہ اللہ کیا کرو۔ دوسرے کاموں کی اجازت نہیں۔ نہ کمانے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا۔ اس لئے کہ پیدا ہی عبادت کے لئے کیا گیا ہے۔

### ایسے خریدار پر قربان جائیے

لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہدی جان و مال کو خرید بھی لیا، اور اس کی قیمت بھی پوری لگادی۔ یعنی جنت، پھر وہ جان و مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیا کہ یہ جان و مال تم اپنے پاس رکھ لو۔ اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ کھلو، پیو، کلمو، اور دنیا کے کارو بدل کرو۔ بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اور فلاں فلاں چیزوں سے پر ہیز کرو۔ بلی جس طرح چاہو، کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور عنایت ہے۔

### اس ماہ میں اصل مقصد کی طرف آ جاؤ

لیکن جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کارو بدل اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے۔ اور دنیا کے کارو بدل اور دھندوں میں کھو جائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لئے وقتاً کچھ اوقات مقرر فرمادیے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان البدک کا مینہ ہے۔ اس لئے کہ سل کے گیڈہ مینے تو آپ تجلدات میں، زراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کارو بدل اور دھندوں میں، کھانے کمانے اور ہنسنے بولنے میں لگے رہے۔ اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اس لئے ایک مینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام

کے لئے مقرر فرمادیا کہ اس میں میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ۔ جس کے لئے تمیں دنیا میں بھیجا گیا، اور جس کے لئے تمیں پیدا کیا گیا، اس ملہ میں اللہ کی عبادت میں لگو، اور گیلہ میں تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آچکا ہے۔ اس کو دھلواؤ، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لئے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے۔

### رمضان کے معنی

لفظ "رمضان" میم کے سکون کے ساتھ ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ صحیح لفظ "رمضان" میم کے زبر کے ساتھ ہے۔ اور "رمضان" کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کئے ہیں۔ لیکن اصل عربی زبان میں "رمضان" کے معنی ہیں۔ "جھلسادینے والا اور جلا دینے والا" اور اس ملہ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس ملہ کا نام رکھا جا رہا تھا۔ اس سال یہ مہینہ شدید جھلسادینے والی گرمی میں آیا تھا۔ اس لئے لوگوں نے اس کا نام "رمضان" رکھ دیا۔

### اپنے گناہوں کو بخشوالو

لیکن علماء نے فرمایا کہ اس ملہ کو "رمضان" اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسادیتے ہیں۔ اور جلا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔ گیلہ میں دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلتیں دل پر چھا گئیں، اور اس عرصہ میں جن گناہوں اور خطلوں کا ارتکاب ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشوالو۔ اور غفلت کے پردوں کو دل سے اخھادو۔ تاکہ زندگی کا ایک نیا دوز شروع ہو جائے۔ اسی لئے قرآن کریم نے

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُبَيْتَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُبِيَتْ  
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَفَقَّنُ .

(سورة البقرہ: ۱۸۳)

یعنی یہ روزے تم پر اس لئے فرض کئے گئے ہیں۔ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا، اور غفات کے جواب دل سے اٹھانا۔ اور دلوں میں تقویٰ پیدا اکرنا۔ جیسے کسی میشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروں کرائی پڑتی ہے۔ اس کی صفائی کرائی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروں اور اور ہانگ کے لئے یہ رمضان المبارک کا ممینہ مقرر فرمایا ہے۔ تاکہ اس مینے میں اپنی صفائی کراؤ، اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔

### اس ماہ کو فارغ کر لیں

لہذا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مینے کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے۔ اس لئے کہ گیلہ مینے تک زندگی کے دوسرے کام دھنڈوں میں لگے رہے۔ لیکن یہ ممینہ انسان کے لئے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا ممینہ ہے۔ اس لئے اس مینے کے تمام اوقات، ورنہ کم از کم اکثر اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اللہ کی عبادات میں صرف کرے۔ اور اس کے لئے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہئے۔ اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہئے۔

### استقبال رمضان کا صحیح طریقہ

آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی ہے۔ جس کی ابتداء عرب

مملک خاص کر مصراور شام سے ہوئی۔ اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی راجح ہو گئی۔ اور ہمارے یہاں بھی آگئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ مخلفیں منعقد ہوتی ہیں جس کا نام ”محفل استقبال رمضان“ رکھا جاتا ہے۔ جس میں رمضان سے ایک دو دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر اور وعظ رکھا جاتا ہے۔ جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کے ”خوش آمد“ کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہی اچھا جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصہ کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ ز رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شلنہ کی عبادت میں صرف ہو، رمضان کا مینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ مینہ آرہا ہے، کس طرح میں اپنی مصروفیات کم کر سکتا ہوں۔ اس مینہ میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بالکلیہ عبادت کے لئے فداغ کر لے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی شخص بالکلیہ اپنے آپ کو فداغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھئے کہ کون کون سے کام ایک ملے کے لئے چھوڑ سکتا ہوں، ان کو چھوڑے۔ اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں، ان کو کم کرے، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک متوخر کر سکتا ہے۔ ان کو متوخر کرے۔ اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ میرے نزدیک استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اگر یہ کام کر لیا تو انشاء اللہ رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہو گا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا۔ اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں لسکیں گے۔

## روزہ اور تراویح سے ایک قدم آگے

جب رمضان المبارک کو دوسرے مشاغل سے فدغ کر لیا، تو اب اس فدغ وقت کو کس کام میں صرف کرے؟ جمل تک روزوں کا تعلق ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور جمل تک تراویح کا معاملہ ہے۔ اس سے بھی ہر شخص واقف ہے۔ لیکن ایک پسلوکی طرف خاص طور پر متوجہ کرتا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ الحمد للہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک احرام اور اس کا تقدس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ملہ مبارک میں اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کرے۔ اور کچھ نوافل زیادہ پڑھے۔ جو لوگ عام دنوں میں پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں آنے سے کرتا تھے۔ وہ لوگ بھی تراویح جیسی لمبی نماز میں بھی روزانہ شریک ہوئے ہیں۔ وہ سب الحمد للہ اس ماوکی برکت ہے کہ لوگ عبادت میں، نماز میں، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔

## ایک مہینہ اس طرح گزار لو

لیکن ان سب نفلی نمازوں، نفلی عبادات، نفلی ذکر و اذکار، اور نفلی تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے۔ جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا کہ اس ملہ میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بیکے، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سین۔ زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے۔ اور اللہ تبارک کی معصیت سے مکمل اجتناب ہو، یہ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا۔ پھر چاہے ایک نفلی رکعت نہ پڑھی ہو۔ اور تلاوت زیادہ نہ کی ہو۔ اور نہ ذکر و اذکار کیا ہو۔ لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ مہینہ گزار دیا تو آپ قابل مبارک بادھیں۔ اور یہ مہینہ آپ کے لئے مبارک ہے۔ گیارہ مہینے

تک ہر قسم کے کام میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک کا ایک ممینہ آرہا ہے۔ کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کرو۔ اس میں تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو۔ اس میں تو غیبت نہ کرو۔ اس میں تو بد نگاہی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اس مبدل کمینے میں تو کافوں کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو۔ اس میں تو رشوت نہ کھاؤ، اس میں سود نہ کھاؤ، کم از کم یہ ایک ممینہ اس طرح گزار لو۔

### یہ کیسا روزہ ہوا؟

اس لئے کہ آپ روزے تو ماشاء اللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے کیا معنی ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہیں کہ کھانے سے اجتناب کرنا، پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کی سمجھیل سے اجتناب کرنا، روزے میں ان تینوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو نی نفسیہ حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی سمجھیل کرنا حلال، اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں۔ نہ کھارہ ہے ہیں۔ اور نہ پی رہے ہیں۔ لیکن جو چیزیں پسلے سے حرام تھیں، مثلاً جھوٹ بولنا۔ غیبت کرنا، بد نگاہی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھیں۔ روزے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور بد نگاہی کر رہے ہیں، اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن وقت پاس کرنے کے لئے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا روزہ ہوا؟ کہ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نہیں چھوڑی۔ اس لئے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لئے جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پسلے سے حرام تھا۔ تو کھانا چھوڑ کر اس نے کونسا بردا عمل

## روزہ کا ثواب ملیا میٹ ہو گیا

اگرچہ فقی اعتبر سے روزہ درست ہو گیا۔ اگر کسی مفتی سے پوچھو گے کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا۔ اور جھوٹ بھی بولا تھا۔ تو وہ مفتی کسی جواب دے گا کہ روزہ درست ہو گیا۔ اس کی قضاواجب نہیں۔ لیکن اس کی قضاواجب نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا ثواب اور برکات ملیا میٹ ہو گئیں، اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں کی۔

## روزہ کا مقصد تقویٰ کی شمع روشن کرنا

میں نے آپ کے سامنے جو یہ آیت تلاوت کی کہ:

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْتُوا كُفَّارَةً لَعَلَيْكُمُ الظِّيَامُ كَمَا كُبِّطَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَفَّعُونَ۔

اے ایمان والا! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے پچھلی امتون پر فرض کئے گئے۔ کیوں روزے فرض کئے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، یعنی روزہ اصل میں اس لئے تمہارے ذمہ مشروع کیا گیا، تاکہ اس کے ذریعہ تمہارے دل میں تقویٰ کی شمع روشن ہو۔ روزے سے تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

## روزہ تقوے کی سیر ہی ہے

بعض علماء کرام نے فرمایا کہ روزے سے تقویٰ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی قوت حیوانیہ اور قوت بہیمیہ کو توڑتا ہے، جب آدمی بھوکار ہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی حیوانی خواہشات اور حیوانی نفاضتے کچلے جائیں گے۔ جس کے نتیجے میں گناہوں پر اندام کرنے کا واعیہ اور جذبہ ست پڑ جائے گا۔

لیکن ہمارے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ۔  
 اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ نے فرمایا کہ صرف قوت بھیمیہ  
 تو زنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی صحیح طریقے سے  
 روزہ رکھے گا تو یہ روزہ خود تقویٰ کی ایک عظیم الشان سیر ہی ہے۔ اس لئے کہ تقویٰ  
 کے کیا معنی ہیں؟ تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے عظمت کے استحضار  
 سے اس کے گناہوں سے بچتا، یعنی یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور  
 اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے،  
 اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو  
 چھوڑتا ہے تو اسی کام تقویٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَأَمَّا مَنْ حَافَ مَقَادِيرَهُ وَنَفَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى

(سورۃ النازعات: ۳۰)

یعنی جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔  
 اور کھڑا ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہوا نے نفس اور خواہشات  
 سے روکتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔

### میرا ملک مجھے دیکھ رہا ہے

لہذا ”روزہ“ حصول تقویٰ کے لئے بہترن ٹریننگ اور بہترن تربیت ہے،  
 جب روزہ رکھ لیا تو آدمی پھر کیا ہی گنبد، خطا کار اور فاسق و فاجر ہو، جیسا بھی ہو،  
 لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے۔ اور  
 سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ اور کمرہ میں اکیلا ہے۔ کوئی دوسرا پاس موجود نہیں، اور  
 دروازے پر کنٹی گئی ہوئی ہے۔ اور کمرہ میں فرج موجود ہے، اور اس فرج میں ٹھنڈا  
 پانی موجود ہے۔ اس وقت انسان کا نفس یہ تلقانہ کرتا ہے کہ اس شدید گرمی کے  
 علم میں نہنڈا پانی پی لوں، لیکن کیا وہ شخص فرج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لے گا؟ ہر

گز نہیں پیئے گا۔ حالانکہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کافیوں کاں خبر نہ ہوگی۔ کوئی لعنت اور طامت کرنے والا نہیں ہو گا۔ اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا، اور شام کو باہر نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ افطاری کھا پے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا ہے، کیوں نہیں پیتا؟ پانی نہ پینے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا ملک جس کے لئے میں نے روزہ رکھا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔

## میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اسی لئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ:

الصوم لى وانا جزى به

(ترمذی، کتاب الصوم باب ماجاء فی فضل الصوم حدیث نمبر ۷۶۳)

یعنی روزہ میرے لئے ہے۔ لہذا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اعمال کے بدلے میں تو یہ فرمایا کہ کسی عمل کا دس گناہجر، کسی عمل کا ستر گناہجر اور کسی عمل کا سو گناہجر ہے۔ حتیٰ کہ صدقہ کا اجر سات سو گناہ ہے، لیکن روزے کے بدلے میں فرمایا کہ روزے کا اجر میں دوں گا۔ کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لئے رکھا تھا۔ اس لئے کہ شدید گرمی کی وجہ سے جب طاقت میں کائٹنگ رہے ہیں، اور زبان پاس سے خشک ہے۔ اور فرج میں مھنڈا پانی موجود ہے۔ اور تنہائی ہے۔ اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لئے پانی نہیں پی رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ذر اور احساس ہے۔ اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی پیدا ہو گیا۔ لہذا تقویٰ روزے کی ایک شکل بھی ہے۔ اور اس کی حصول کی ایک سیر ہی بھی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزے اس لئے فرض کئے ہیکہ تقویٰ کی عملی تربیت

## ورنہ یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہو گا

اور جب تم روزے کے ذریعہ یہ عملی تربیت حاصل کر رہے ہو، تو پھر اس کو اور ترقی دو، اور آگے بڑھاؤ، لہذا جس طرح روزے کی حالت میں شدت پیاس کے باوجود پانی پینے سے رک گئے تھے، اور اللہ کے خوف سے کھلانا کھانے سے رک گئے تھے، اسی طرح جب کاروبارِ زندگی میں نکلو، اور وہاں پر اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا تقاضہ اور داعیہ پیدا ہو تو یہاں بھی اللہ کے خوف سے اس معصیت سے رک جاؤ، لہذا ایک مینے کے لئے ہم تمہیں ایک تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں۔ اور یہ تربیتی کورس اس وقت مکمل ہو گا جب کاروبارِ زندگی میں ہر موقع پر اس پر عمل کرو، ورنہ اس طرح یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہو گا کہ اللہ کے خوف سے پانی پینے سے تو رک گئے، اور جب کاروبارِ زندگی میں نکلے تو پھر آنکھ غلط جگہ پر پڑ رہی ہے۔ کان بھی غلط باتیں سن رہیں ہیں۔ زبان سے بھی غلط باتیں نکل رہی ہیں۔ اس طرح تو یہ کورس مکمل نہیں ہو گا۔

## روزہ کا ایرکنڈیشنر لگا دیا، لیکن؟

جس طرح علاج ضروری ہے۔ اسی طرح پر ہمیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لئے رکھوا یا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، لیکن تقویٰ اس وقت پیدا ہو گا، جب اللہ کی نافرمانیوں اور معصیتوں سے پر ہمیز کرو گے۔ مثلاً کمرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے آپ نے اس میں ایرکنڈیشنر لگایا، اور ایرکنڈیشنر کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے، اب آپ نے اس کو اون کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیئے۔ ادھر سے ٹھنڈک آ رہی ہے، اور ادھر سے نکل رہی ہے۔ لہذا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو گا۔ بالکل اسی طرح یہ سوچے ہو۔

روزہ کا ایک ندیشتر تو آپ نے لگادیا۔ لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اللہ کی تافرمانی اور معصیتوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔ اب ہتائے ایسے روزے سے کوئی فائدہ حاصل ہو گا؟

### اصل مقصد ”حکم کی اتباع“

اسی طرح روزے کے اندر یہ حکمت کہ اس کا مقصد قوت بھیمیہ توڑنا ہے۔ یہ بعد کی حکمت ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے حکم کی اتباع ہو۔ اور سلے دین کا مدار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع ہے۔ وہ جب کہیں کہ کھلا، اس وقت کھانا دین ہے۔ اور جب وہ کہیں کہ مت کھلا۔ اس وقت نہ کھانا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی الطاعت اور اپنی اتباع کا عجیب نظام بنایا ہے کہ سلا ادن تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس پر برا اجر و ثواب رکھا۔ لیکن ادھر آفتاب غروب ہوا۔ ادھر یہ حکم آگیا کہ اب جلدی اظہار کرو، اور اظہار میں جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا۔ اور بلاوجہ اظہار میں تاخیر کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس لئے کہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو اب ہمارا یہ حکم آگیا کہ اب بھی اگر نہیں کھلا گے۔ اور بھوک کے رہو گے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پسند نہیں۔ اس لئے کہ اصل کام ہماری اتباع کرنا ہے۔ اپنا شوق پورا نہیں کرنا ہے۔

### ہمارا حکم توڑ دیا

عام حالات میں دنیا کی کسی چیز کی حرمن اور ہوس بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن جب وہ کہیں کہ حرمن کرو، تو پھر حرمن ہی میں لطف اور مزہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ:

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں  
خاک بہ فرق قناعت بعد از

جب سلطان دین یہ چلا رہے ہیں کہ میں حرص اور طمع کروں تو پھر قناعت کے سر پر خاک، پھر قناعت میں مزہ نہیں ہے۔ پھر تو طمع اور حرص میں مزہ ہے، یہ افظاد میں جلدی کرنے کا حکم اسی وجہ سے ہے، غروب آفتاب سے پہلے تو یہ حکم تھا لیکن ذرہ بھی اگر منہ میں چلا گیا تو گناہ بھی لازم اور کفادہ بھی لازم، مثلاً سات بجے آفتاب غروب ہو رہا تھا۔ اب اگر کسی شخص نے چھنچ کر انسٹھ منٹ پر ایک پنے کا دانہ کھالیا۔ اب بتائیے کہ روزہ میں کتنی کمی آئی؟ صرف ایک منٹ کی کمی آئی، ایک منٹ کارروز، تڑا، لیکن اس ایک منٹ کے روزے کے کفلے میں ساٹھ دن کے روزے رکھنے واجب ہیں، اس لئے کہ بات صرف ایک پنے اور ایک منٹ کی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اس نے ہمارا حکم توڑا، ہمارا حکم یہ تھا کہ جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کھلانا جائز نہیں، لیکن تم نے یہ حکم توڑ دیا، لہذا ایک منٹ کے بد لے میں ساٹھ دن کے روزے رکھو۔

### افظاد میں جلدی کرو

اور پھر جیسے ہی آفتاب غروب ہو گیا تو یہ حکم آگیا کہ اب جلدی کھاؤ، اگر باوجود تاخیر کر دی تو گناہ ہو گا، کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ کھاؤ، اب کھلانا ضروری ہے۔

### حری میں تاخیر افضل ہے

حری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ حری تاخیر سے کھانا افضل ہے۔ جلدی کھانا خلاف سنت ہے، بعض لوگ رات کو بارہ بجے حری کھا کر سو جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، چنانچہ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ بالکل آخری وقت تک کھاتے رہتے تھے۔ اس واسطے کہ یہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے، اس لئے جب تک وہ وقت

باقی رہے گا، ہم کھاتے رہیں گے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور اطاعت اسی میں ہے، اب اگر کوئی شخص پہلے سحری کھالے تو گویا کہ اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اس نے پہلے سے سحری کھانے کو منوع قرار دیا۔ پورے دین میں سدا ہکیل اتباع کا ہے، جب ہم نے کماکہ کھلو تو کھانا ثواب ہے، اور جب ہم نے کماکہ مت کھلو تو نہ کھانا ثواب ہے۔ اس نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ کھلو، اور بندہ کے کہ میں تو نہیں کھاتا۔ یا میں کم کھاتا ہوں۔ یہ تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی۔ ارے بھلائی نہ تو کھانے میں پکھر رکھا ہے اور نہ ہی نہ کھانے میں پکھر رکھا ہے۔ سب کچھ ان کی اطاعت میں ہے، اس نے جب انہوں نے کہہ دیا کہ کھلو، تو پھر کھلو، اس میں اپنی طرف سے زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں،

### ایک محینہ بغیر گناہ کے گزار لو

البتہ انتہام کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ آنکھوں کو بچاؤ۔ کانوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ، ایک رمضان کے موقع پر ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ نے یہاں تک فرمایا کہ میں ایک ایسی بات کھاتا ہوں جو کوئی اور نہیں کے گا۔ وہ یہ کہ اپنے نفس کو اس طرح بسلاو، اور اس سے عمد کرو کہ ایک محینہ بغیر گناہ کے گزار لو۔ جب یہ ایک محینہ گزر جائے تو پھر تیرا جو جی چاہے کرنا، چنانچہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب یہ ایک محینہ بغیر گناہ کے گزر جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں گناہ چھوڑنے کا اعیش پیدا فرمادیں گے۔ لیکن یہ عمد کرو کہ یہ اللہ کا محینہ آرہا ہے۔ یہ عبادت کا محینہ ہے۔ یہ تقویٰ پیدا کرنے کا محینہ ہے، ہم اس میں گناہ نہیں کریں گے، اور ہر شخص اپنے گرباں میں منہ ڈال کر دیکھے کہ وہ کون گناہوں میں بتلا ہے۔ پھر ان سب کے بدے میں یہ عمد کر لے کہ میں ان میں بتلانہیں ہوں گا۔

مثلاً یہ عمد کر لے کہ رمضان البدک میں آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ کان غلط بات نہیں سینے گے۔ زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اور فواحش کو بھی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔

### اس ماہ میں رزق حلال

دوسری اہم بات جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم اس ایک مہینے میں تو رزق حلال کا اہتمام کرو، جو رقمہ آئے، وہ حلال کا آئے، کیسی ایسا نہ ہو کہ روزہ اللہ کے لئے رکھا، اور اس کو حرام چیز سے افظاد کر رہے ہیں سود پر افظاد ہو رہا ہے۔ یار شوت پر افظاد ہو رہا ہے۔ یا حرام آمنی پر افظاد ہو رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہوا؟ کہ سحری بھی حرام اور افظادی بھی حرام، اور در میان میں روزہ۔ اس نے خاص طور پر اس مہینے میں حرام روزی سے بچو۔ اور اللہ تبدک و تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں۔ مجھے رزق حرام سے بچا۔

### حرام آمنی سے بچیں

بعض حضرات وہ ہیں، جن کا بنیادی ذریعہ معاش ..... الحمد لله ..... حرام نہیں ہے، بلکہ حلال ہے، البتہ اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حرام آمنی کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ ایسے حضرات کے لئے حرام سے پچنا کوئی دشوار کام نہیں ہے، وہ کم از کم اس ماہ میں تھوڑا سا اہتمام کر لیں، اور حرام آمنی سے بچیں ..... یہ عجیب قصہ ہے کہ اس ماہ کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ صبر کا ممینہ ہے۔ یہ مواسات اور غنوواری کا ممینہ ہے۔ ایک دوسرے سے ہمدردی کا ممینہ ہے۔ لیکن اس ماہ میں مواسات کے بجائے لوگ النا کھل کھینچنے کی فکر کرتے ہیں۔ ادھر رمضان البدک کا ممینہ آیا۔ اور اُدھر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ لہذا کم از کم اس ماہ میں اپنے آپ کو ایسے حرام کاموں سے بچاؤ۔

## اگر آمدنی مکمل حرام ہے تو پھر؟

بعض حضرات وہ ہیں جن کا ذریعہ آمدنی مکمل طور پر حرام ہے، مثلاً وہ کسی سودی ادارے میں ملازم ہیں، ایسے حضرات اس ماہ میں کیا کریں؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ ..... اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین ..... ہر آدمی کے لئے راستہ بتا گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے آدمی کو جس کی مکمل آمدنی حرام ہے۔ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو رمضان میں چھٹی لے لے، اور کم از کم اس ماہ کے خرچ کے لئے جائز اور حلال ذریعہ سے انتظام کر لے۔ کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ اختیار کر لے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے سے اس ماہ کے خرچ کے لئے کسی سے قرض لے لے۔ اور یہ سوچے کہ میں اس میہنے میں حلال آمدنی سے کھلوں گا۔ اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا، کم از کم اتنا تو کر لے۔

## گناہوں سے بچنا آسان ہے

بہر حال! میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لوگ اس میہنے میں نوافل وغیرہ کا تواہتمام بہت کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کو آسان فرمادیا ہے۔ چنانچہ اس ماہ میں شیطان کو بیڑیاں پہنادی جاتی ہیں۔ اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لہذا شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کے وسو سے اور بقاۓ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔

## روزے میں غصے سے پرہیز

میری بات جس کا روزے سے خاص تعلق ہے، وہ ہے غصے سے اجتناب اور پرہیز، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مواسات کاممینہ ہے۔ ایک دوسرے سے غنوواری کاممینہ ہے۔ لہذا غصہ اور غصہ کی وجہ سے سرزد ہونے والے جرائم اور گناہ، مثلاً جھگڑا، مل پٹالی اور تو تکار، ان چیزوں سے پرہیز کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم نے یہاں تک فرمادیا کہ:

وَإِنْ جَهْلَ عَلَىٰ أَحَدٍ كَمْ جَاهُلٌ وَهُوَ صَائِمٌ۔ فَلِيَقْلِيلَ إِنِّي صَائِمٌ

(ترمذی، کتاب الصوم، باب ماجاء فی فضل الصوم، حدیث نمبر ۷۲۳: ۷۲۳)  
یعنی اگر کوئی شخص تم سے جملات اور لڑائی کی بات کرے تو تم کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ میں لڑنے کے لئے تیار نہیں۔ نہ زبان سے لڑنے کے لئے تیار ہوں، اور نہ ہاتھ سے۔ اس سے پرہیز کریں۔ یہ سب بنیادی کام ہیں۔

### رمضان میں نفلی عبادات زیادہ کریں

جملہ تک عبادات کا تعلق ہے، تمام مسلمین ماشاء اللہ جانتے ہی ہیں کہ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا ضروری ہے، اور تلاوت قرآن کو چونکہ اس میں سے خاص مناسبت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے میں میں حضرت جبراہیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس نے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اس میں میں تلاوت کریں۔ اور اس کے علاوہ چلتے، پھرتے، اٹھتے، بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر کریں۔ اور تیرا اکلمہ: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور درود شریف۔ اور استغفار کا چلتے پھرتے اس کی کثرت کا اہتمام کریں۔ اور نوافل کی جتنی کثرت ہو سکے، کریں۔ اور عام دنوں میں رات کو انھ کر تجدی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ انسان سحری کے لئے انتہا ہے۔ تھوڑا پہلے انھ جائے۔ اور سحری سے پہلے تجدی پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ یہ سب کام تو اس مہ میں کرنے ہی چاہیں۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ اہم گناہوں سے بچنے کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کے انوار و برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین..... دآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

# آزادی نسوان کا فرب

جشن مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



ضبط و ترتیب  
موعبد الشہین

میجن اسلامک پبلیشورز

۱/۱۸۸ - یات آباد، کراچی

نئی تہذیب کا عجیب فلسفہ ہے کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے لئے اور اپنے شوہر کے لئے اور اپنے بچوں کے لئے کھانا تیار کرتی ہے، تو یہ رجعت پسندی اور دقیانویسیت ہے۔ اور اگر وہی عورت ہوائی جہاز میں ایز ہوش بن کر سینکڑوں انسانوں کی ہوس ناک نگاہوں کا نشانہ بن کر ان کی خدمت کرتی ہے تو اس کا نام آزادی اور جدت پسندی ہے۔ اگر عورت گھر میں رہ کر اپنے ماں، باپ، بہن، بھائیوں کے لئے خانہ داری کا انتظام کرے تو یہ قید اور ذلت ہے، لیکن دوکانوں پر "سیلز گرل" بن کر اپنی مسکراہوں سے گاہوں کو متوجہ کرے، یا دفاتر میں اپنے افروں کی ناز برداری کرے تو یہ "آزادی" اور "اعزاں" ہے۔

إِنَّا يُشْهِدُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## آزادی نواں کا فریب

الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفّر له ونؤمن به ونتوكل عليه، ونحوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّات أعمالنا، من يهدى الله فلامضى له ومن يضلله فلا هادى له، وأشهدان لا إله إلا الله وحدة لا شريك له، وأشهدان سيدنا وآنسنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلام تسليماً كثيراً كثيراً . أما بعد!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

(سورة الأحزاب: ٣٣)

أمنت بالله صدق الله مولا نا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ومحنت على ذلك من الشهدان والشكتين  
والحمد لله رب العالمين .

## آج کا موضوع

میرے محترم بھائیوں اور بہنوں! السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع ”حجاب کی اہمیت“ مقرر کیا گیا ہے، اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلامی احکامات کی رو سے، اور قرآن سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عورت کے لئے ”حجاب“ کا کیا حکم ہے؟ اور وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔

اس موضوع کو صحیح طور پر سمجھنے سے پہلے ایک اہم نکتے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ عورت کے لئے ”حجاب“ اور ”پردہ“ کیوں ضروری ہے، اور اس کے شرعی احکام کیا ہیں؟ اور یہ بات اس وقت تک ٹھیک ٹھیک سمجھ میں نہیں آنکتی جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ عورت کے اس دنیا میں آنے اور اس کے پیدا کئے جانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

## تخلیق کا مقصد خالق سے پوچھو

آج مغربی افکار کی یورش میں یہ پروپیگنڈہ ہر جگہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو نقاب اور پردے میں رکھ کر گھونٹ دیا گیا ہے، اس کو چار دیواری کے اندر قید کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سارا پروپیگنڈہ درحقیقت اس بات کا نتیجہ ہے کہ عورت کی تخلیق کا بنیادی مقصد معلوم نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات پر ایمان ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، انسان کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، مرد اور عورت دونوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر ان کا مقصد تخلیق بھی معلوم کرے گا اور اگر خدا نخواستہ اس پر ایمان نہ ہو تو پھر بات آگے نہیں چل سکتی۔ اور اس زمانے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور لا دینیت کے میدان میں روز بروز آگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں اور علامات دکھا

ربے ہیں جن سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو رہے ہیں۔ لہذا اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر ہات آگے چل ہی نہیں سکتی، لیکن اگر اللہ پر ایمان ہے، اور یہ پتہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور مرد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، عورت کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے تو اب پیدائش کا مقصد بھی اسی سے پوچھنا چاہئے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا؟ اور عورت کو کیوں پیدا کیا؟ اور دونوں کی تحقیق کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

### مرد اور عورت دو مختلف صنفیں ہیں

یہ نعروہ آج بہت زور و شور سے لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہئے۔ اور مغربی افکار نے یہ پروپیگنڈہ ساری دنیا میں کر دیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اگر مرد اور عورت دونوں ایک ہی جیسے کام کے لئے پیدا ہوئے تھے، تو پھر دونوں کو جسمانی طور پر الگ الگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرد کا جسمانی نظام اور ہے، عورت کا جسمانی نظام اور ہے، مرد کا مزاج اور ہے، اور عورت کا مزاج اور ہے، مرد کی صلاحیتیں اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں اور ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفیں اس طرح بنائی ہیں کہ دونوں کی تحقیقی ساخت اور اس کے نظام میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ مرد اور عورت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ خود فطرت کے خلاف بغاوت ہے اور مشاہدہ کا انکار ہے۔ اس لئے کہ یہ تو آنکھوں سے نظر آرہا ہے کہ مرد اور عورت کی ساخت میں فرق ہے، نے فیشن نے مرد اور عورت کے اس فطری فرق کو منانے کی کتنی کوششیں کر دیکھیں، چنانچہ عورتوں نے مردوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیا، اور مردوں نے عورتوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیا، عورتوں نے مردوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیئے، اور مردوں نے عورتوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیئے۔ لیکن اس بات سے انکار اب بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مرد اور

عورت دونوں کا جسمانی نظام مختلف ہے۔ دونوں مختلف شفیقیں ہیں، دونوں کے اندازِ زندگی مختلف ہیں، اور دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔

### اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کا ذریعہ پیغمبر ہیں

لیکن یہ کس سے معلوم کیا جائے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی ہو گا کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے، اسی سے پوچھو کہ آپ نے مرد کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ اور عورت کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ اور اس سے پوچھنے کا ذریعہ حضرات انبیاء ﷺ اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

### انسانی زندگی کے دو شعبے

قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کسی ادنیٰ شبہ کے بغیر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ درحقیقت انسانی زندگی دو مختلف شعبوں پر منقسم ہے، ایک گھر کے اندر کا شعبہ ہے، اور ایک گھر کے باہر کا شعبہ ہے۔ یہ دونوں شعبے ایسے ہیں کہ ان دونوں کو ساتھ لئے بغیر ایک متوازن اور معتدل زندگی نہیں گزاری جاسکتی، گھر کا انتظام بھی ضروری ہے، اور گھر کے باہر کا انتظام یعنی کسب معاش اور روزی کمانے کا انتظام بھی ضروری ہے۔ جب دونوں کام ایک ساتھ اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک چلیں گے تب انسان کی زندگی استوار ہوگی، اور اگر ان میں سے ایک انتظام بھی ختم ہو گیا، یا ناقص ہو گیا تو اس سے انسان کی زندگی میں توازن (Balance) ختم ہو جائے گا۔

### مرد اور عورت کے درمیان تقسیم کار

ان دونوں شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم فرمائی کہ مرد کے ذمے گھر کے

باہر کے کام لگائے، مثلاً کسبِ معاش اور روزی کمانے کا کام، اور سیاسی اور سماجی کام وغیرہ۔ یہ سارے کام درحقیقت مرد کے ذمے عائد کئے ہیں، اور گھر کے اندر کا شعبہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے کیا ہے، وہ اس کو سنبھالیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا کہ عورت باہر کا انتظام کرے گی، اور مرد گھر کا انتظام کرے گا، تو بھی کوئی چوں و چڑا کی مجال نہیں تھی۔ لیکن اگر عقل کے ذریعے انسان کی فطری تخلیق کا جائزہ لیں تو بھی اس کے سوا اور کوئی انتظام نہیں ہو سکتا کہ مرد گھر کے باہر کا کام کرے اور عورت گھر کے اندر کا کام کرے، اس لئے کہ مرد اور عورت کے درمیان اگر تقابل کر کے دیکھا جائے تو ظاہر ہو گا کہ جسمانی قوت جتنی مرد میں ہے، اتنی عورت میں نہیں، اور کوئی شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے مرد میں عورت کی نسبت جسمانی قوت زیادہ رکھی ہے، اور گھر کے باہر کے کام قوت کا تقاضہ کرتے ہیں، محنت کا تقاضہ کرتے ہیں۔ وہ کام قوت اور محنت کے بغیر انجام نہیں دیئے جاسکتے۔ لہذا اس فطری تخلیق کا بھی تقاضا یہی تھا کہ گھر کے باہر کا کام مرد انجام دے، اور گھر کے اندر کے کام عورت کے پردہ ہوں۔

### عورت گھر کا انتظام سنبھالے

ابتداء میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو برآہ راست خطاب فرمایا، اور ان کے واسطے سے ساری مسلمان خواتین سے خطاب فرمایا، وہ یہ ہے کہ :

وَقَرْنَفِتْ بُيُوتِكُنْ

یعنی تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اس میں صرف اتنی بات نہیں کہ

عورت کو ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہئے، بلکہ اس آیت میں ایک بُنیادی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، وہ یہ کہ ہم نے عورت کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ گھر میں قرار سے رہ کر گھر کے انتظام کو سنبھالے۔

## حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تقسیم کار

حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اپنے درمیان یہ تقسیم کار فرمائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کام انجام دیئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر کے اندر کا انتظام سنبھالتیں۔ چنانچہ گھر کی جھاؤ دیتیں، پچلی چلا کر آٹا پیتیں، پانی بھرتیں، کھانا پکا تیں۔

## عورت کو کس لاچ پر گھر سے باہر نکالا گیا؟

لیکن جس ماحول میں معاشرے کی پاکیزگی کوئی قیمت ہی نہ رکھتی ہو، اور جہاں عفت و عصمت کے بجائے اخلاقی یا احتیٰ اور حیاسوzi کو منتهائے مقصود سمجھا جاتا ہو، ظاہر ہے کہ وہاں اس تقسیم کار اور پرده اور حیاء کو نہ صرف غیر ضروری، بلکہ راستے کی رُکاوٹ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جب مغرب میں تمام اغلاقی اقدار سے آزادی کی ہوا چلی تو مرد نے عورت کے گھر میں رہنے کو اپنے لئے دو ہری مصیبت سمجھا۔ ایک طرف تو اس کی ہوناک طبیعت عورت کی کوئی ذمہ داری قبول کے بغیر نہم قدم پر اس سے لطف انداز ہونا چاہتی تھی، اور دوسری طرف وہ اپنی قانونی بیوی کی معاشی کفالت کو بھی ایک بوجھ تصور کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے دونوں مشکلات کا جو عیارانہ حل نکلا، اس کا خوبصورت اور

معصوم نام "تحریک آزادی نسوان" ہے۔ عورت کو یہ پڑھایا گیا کہ تم اب تک گھر کی چار دیواری میں قید رہی ہو، اب آزادی کا دور ہے، اور تمہیں اس قید سے باہر آگر مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر کام میں حصہ لینا چاہئے۔ اب تک تمہیں حکومت و سیاست کے ایوانوں سے بھی محروم رکھا گیا ہے، اب تم باہر آگر زندگی کی جدوجہد میں برابر کا حصہ لو تو دنیا بھر کے اعزازات اور اونچے اونچے منصب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔

عورت بے چاری ان دلفریب نعروں سے متاثر ہو کر گھر سے باہر آگئی، اور پروپیگنڈے کے تمام وسائل کے ذریعے شور مچا مچا کر اسے یہ باور کرا دیا گیا کہ اُسے صدیوں کی غلامی کے بعد آج آزادی ملی ہے، اور اب اس کے رنج و محن کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان دلفریب نعروں کی آڑ میں عورت کو گھیٹ کر سڑکوں پر لا یا گیا، اُسے دفتروں میں کلرکی عطا کی گئی، اسے اپنی مردوں کی پرائیویٹ سیکریٹری کا "منصب" بخشایا گیا، اسے "ائیشنا نائپشت" بننے کا اعزاز دیا گیا۔ اُسے تجارت چکانے کے لئے "سیلز گرل" اور "ماڈل گرل" بننے کا شرف بخشایا گیا، اور اس کے ایک ایک عضو کو بر سریا زار رسو اکر کے گاؤں کو دعوت دی گئی کہ آؤ اور ہم سے مال خریدو، یہاں تک کہ وہ عورت جس کے سر پر دین فطرت نے عزت و آبرو کا تاج رکھا تھا، اور جس کے گلے میں عفت و عصمت کے ہار ڈالے تھے، تجارتی اداروں کے لئے ایک شوپیں اور مرد کی حکملن دور کرنے کے لئے ایک تفریح کا سامان بن کر رہ گئی۔

### آج ہر گھٹیا کام عورت کے سپرد ہے

نام یہ لیا گیا تھا کہ عورت کو "آزادی" دے کر سیاست و حکومت کے ایوان اس کے لئے کھولے جا رہے ہیں، لیکن ذرا جائزہ لے کر تو دیکھئے کہ اس عرصے میں خود مغربی ممالک کی کتنی عورتیں صدر یا وزیرِ اعظم بن گئیں؟ کتنی

خواتین کو نجح بنا�ا گیا؟ کتنی عورتوں کو دوسرا بُلند مناصب کا اعزاز نصیب ہوا؟ اعداد و شمار جمع کئے جائیں تو ایسی عورتوں کا تابع بمشکل چند فی لاکھ ہو گا۔ ان گئی چیز خواتین کو کچھ مناصب دینے کے نام پر باقی لاکھوں عورتوں کو جس بے دردی کے ساتھ سڑکوں اور بازاروں میں گھیثت کر لایا گیا ہے وہ "آزادی نسوان" کے فراڈ کا المذاک ترین پہلو ہے۔ آج یورپ اور امریکہ میں جا کر دیکھئے تو دنیا بھر کے تمام نچلے درجے کے کام عورت کے سپرد ہیں۔ ریستورانوں میں کوئی مرد ویٹر شاڈ و نادر ہی کہیں نظر آئے گا، ورنہ یہ خدمات تمام تر عورتیں انجام دے رہی ہیں، ہوٹوں میں مسافروں کے کمرے صاف کرنے، ان کے بستر کی چادریں بدلتے اور "روم ائندھن" کی خدمات تمام تر عورتوں کے سپرد ہیں۔ دو کانوں پر مال بیچنے کے لئے مرد خال نظر آئیں گے، یہ کام بھی عورتوں ہی سے لیا جا رہا ہے۔ دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تعینات ہیں۔ اور یہرے سے لے کر کلک تک کے تمام "مناصب" زیادہ تر اسی صفت نازک کے حصے میں آئے ہیں جسے "گھر کی قید سے آزادی" عطا کی گئی ہے۔

### نئی تہذیب کا عجیب فلسفہ

پروپیگنڈے کی قتوں نے یہ عجیب و غریب فلسفہ ہنروں پر مسلط کر دیا ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں اپنے اور اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور اولاد کے لئے خانہ داری کا انتظام کرے تو یہ قید اور ذلت ہے، لیکن وہی عورت اجنبی مردوں کے لئے کھانا پکائے، ان کے کروں کی صفائی کرے، ہوٹوں اور جہازوں میں ان کی میزبانی کرے، دو کانوں پر اپنی مسکراہٹوں سے گاہوں کو متوجہ کرے اور دفاتر میں اپنے افراد کی ناز برداری کرے تو یہ "آزادی" اور "اعزاز" ہے۔ اناشد و اناالیہ راجعون۔

پھر ستم طریفی کی انتہا یہ ہے کہ عورت کب معاش کے آٹھ آٹھ گھنٹے کی یہ

خت اور ذلت آمیز ڈینیاں ادا کرنے کے باوجود اپنے گھر کے کام دہنوں سے اب بھی فارغ نہیں ہوئی۔ گھر کی تمام خدمات آج بھی پسلے کی طرح اسی کے ذمے ہیں، اور یورپ اور امریکہ میں اکثریت ان عورتوں کی ہے جن کو آٹھ گھنٹے کی ڈینی دینے کے بعد اپنے گھر پہنچ کر کھانا پکانے، برتن دھونے اور گھر کی صفائی کا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔

### کیا نصف آبادی غصوٰ معطل ہے؟

عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لئے آج کل ایک چلتا ہوا استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی نصف آبادی کو غصوٰ معطل بنانے کے قومی تعمیر و ترقی کے کام میں نہیں ڈال سکے۔ یہ بات اس شان سے کہی جاتی ہے کہ گویا ملک کے تمام مردوں کو کسی نہ کسی کام پر لگا کر مردوں کی حد تک "مکمل روزگار" کی منزل حاصل کر لی گئی ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ کوئی مرد بے روزگار نہیں رہا بلکہ ہزارہا کام "مین پاور" کے انتظار میں ہیں۔

حالانکہ یہ بات ایک ایسے ملک میں کہی جا رہی ہے جہاں اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل مرد سڑکوں پر جوتیاں چلھاتے پھر رہے ہیں، جہاں کوئی چپڑا سی یا ڈرائیور کی آسامی نہ کتی ہے تو اس کے لئے دسیوں گرجویٹ اپنی درخواستیں پیش کر دیتے ہیں اور اگر کوئی کلرک کی جگہ نہ کتی ہے تو اس کے لئے دسیوں ماشر اور ڈاکٹر تک کی ڈگریاں رکھنے والے اپنی درخواستیں پیش کر دیتے ہیں۔ پسلے مردوں کی "نصف آبادی" ہی کو ملکی تعمیر و ترقی کے کام میں پورے طور پر لگا لیجھے۔ اس کے بعد باقی نصف آبادی کے بارے میں سوچئے کہ وہ غصوٰ معطل ہے یا نہیں؟

### آج فیملی سٹم تباہ ہو چکا ہے

اللہ تعالیٰ نے "ورت کو گھر کی ذمہ دار بنا یا تھا، گھر کی مستلزم بنا یا تھا" کہ وہ

فیلی سشم استوار رکھ کے، لیکن جب وہ گھر سے باہر آگئی تو یہ ہوا کہ باب بھی باہر، اور ماں بھی باہر، اور بچے اسکوں میں یا نرسری میں، اور گھر پر تالا پڑ گیا، اب وہ فیلی سشم تباہ اور برباد ہو کر رہ گیا۔ عورت کو تو اس لئے بنایا تھا کہ جب وہ گھر میں رہے گی تو گھر کا انتظام بھی کرے گی، اور بچے اس کی گود میں تربیت پائیں گے، ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ وہیں سے وہ اخلاق سیکھتے ہیں، وہیں سے وہ کردار سیکھتے ہیں، وہیں سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے سیکھتے ہیں، لیکن آج مغربی معاشرے میں فیلی سشم تباہ ہو کر رہ گیا ہے، بچوں کو ماں اور باب کی شفقت میسر نہیں ہے، اور جب عورت دوسرا جگہ کام کر رہی ہے اور مرد دوسرا جگہ کام کر رہا ہے، اور دونوں کے درمیان دن بھر میں کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دونوں جگہ پر آزاد سوسائٹی کا ماحول ہے تو بسا اوقات ان دونوں میں آپس کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور ٹوٹنے لگتا ہے، اور اس کی جگہ ناجائز رشتہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچتی ہے اور گھر برباد ہو جاتا ہے۔

### عورت کے بارے میں ”گورباقوف“ کا نظریہ

اگر یہ باتیں صرف میں کہتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ سب باتیں آپ تعصب کی بناء پر کہہ رہے ہیں لیکن اب سے چند سال پہلے سو دیت یونین کے آخری صدر ”میخائل گورباقوف“ نے ایک کتاب لکھی ہے ”پروسٹرائیکا“ آج یہ کتاب ساری دنیا میں مشہور ہے اور شائع شدہ شکل میں موجود ہے، اس کتاب میں گورباقوف نے ”عورتوں کے بارے“ میں (Status of Women) کے نام سے ایک باب قائم کیا ہے، اس میں اس نے صاف اور واضح لفظوں میں یہ بات لکھی ہے کہ :

”ہماری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکلا

گیا، اور اس کو گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں پیشک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کئے، اور پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا، اس لئے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیلی سشم تباہ ہو گیا، اور اس فیلی سشم کے تباہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، وہ نقصانات ان فوائد سے زیادہ ہیں جو پروڈیکشن کے اضافے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئے۔ لہذا میں اپنے ملک میں ”پرو سٹرائیک“ کے نام سے ایک تحریک شروع کر رہا ہوں، اس میں میرا ایک بڑا بینیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے، اس کو واپس گھر میں کیسے لا یا جائے؟ اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے، ورنہ جس طرح ہمارا فیلی سشم تباہ ہو چکا ہے، اسی طرح ہماری پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔

یہ الفاظ میغائل گور بیچوف نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، وہ کتاب آج بھی بازار میں دستیاب ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے۔

### روپیہ پیسہ بذاتِ خود کوئی چیز نہیں

اس فیلی سشم کی تباہ کاری کی بینیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورت کی مقصدِ تخلیق کو نہیں جانا کہ عورت کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لئے پیدا کیا تھا کہ وہ گھر کے نظام اور فیلی سشم کو استوار کرے۔ آج کے معاشی دور کی ساری کوششوں کا حاصل یہ ہے کہ روپیہ پیسہ زیادہ ہو جائے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا یہ روپیہ پیسہ بذاتِ خود کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اگر آپ کو بھوک لگ

رہی ہو، اور آپ کے پاس پیسے موجود ہوں، تو کیا آپ اس کو کھا کر بھوک مٹالیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پیسے بذاتِ خود کوئی چیز نہیں، جب تک کہ اس کے ذریعہ ضرورت کی چیزیں ہتھیا کر کے آدمی سکون حاصل نہ کرے۔

### آج کا نفع بخش کاروبار

پہلے دنوں ایک رسالے میں ایک سروے کی تفصیل آئی ہے۔ اس سروے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار کونا ہے؟ چنانچہ اس سروے کی رپورٹ یہ لکھی ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار "ماڈل گرل" کا کاروبار ہے۔ اس لئے کہ ایک "ماڈل گرل" مصنوعات کے اشتہارات پر اپنی عربان تصویر دینے کے لئے صرف ایک دن کے ۲۵ ملین ڈالر وصول کرتی ہے، اور اس ایک دن میں وہ تاجر اور سرمایہ کار اپنی مرضی سے جتنی تصویریں جس انداز سے اور جس زاویے سے اتارنا چاہے، اتارتا ہے، اور اس کے ذریعہ وہ اپنی مصنوعات کو بازار میں پھیلایتا ہے۔ آج یہ عورت ایک بکاؤ مال بن چکا ہے، اور سرمایہ دار اس کو جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ عورت نے گھر سے باہر نکل کر اپنی قدر و منزلت اور اپنا مرتبہ کھو دیا اور اس کا یہ نتیجہ تکلا۔

### ایک یہودی کا عبرتناک واقعہ

ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے ایک یہودی بہت برا مالدار اور سرمایہ دار تھا، اس زمانے میں لوگ اپنی دولت زیر زمین خزانے بنانے کے ابصار اور ڈھیر جمع کئے ہوئے تھے۔ جیسا کہ قارون کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ اس نے بہت برا خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی اپنے خزانوں کا خفیہ

طور پر معاشرہ کرنے کے لئے گیا، اور جب اندر گیا تو اس چوکیدار کو بھی اطلاع نہیں کی جس کو وہاں خزانے پر اس نے مقرر کیا تھا، آکہ یہ دیکھے کہ وہ چوکیدار کہیں خیانت تو نہیں کر رہا ہے۔ اور اس خزانے کے دروازے کا ستم ایسا تھا کہ وہ اندر سے بند تو ہوتا تھا، لیکن اندر سے کھل نہیں سکتا تھا، صرف باہر سے کھل سکتا تھا۔ اب اس نے بے خیالی میں دروازہ اندر سے بند کر لیا، اب کھونے کا کوئی راستہ نہیں تھا، باہر جو چوکیدار تھا وہ یہ سمجھتا رہا کہ خزانہ بند ہے، اور اس کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ خزانہ کا مالک اندر ہے۔ اب یہ مالک اندر جا کر خزانہ کی تفییش کرتا رہا اور جب دیکھ بھال کر تفییش سے فارغ ہو کرو اپس باہر نکلنا چاہتا تو باہر نکلے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب وہاں پر قید ہے، بھوک لگ رہی ہے اور خزانہ سارا موجود ہے، لیکن بھوک نہیں مٹا سکتا، پیاس لگ رہی ہے اور خزانہ سارا موجود ہے، لیکن پیاس نہیں بُجھا سکتا، رات کو نیند آ رہی ہے، اور خزانہ سارا موجود ہے، لیکن بستر فراہم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جتنے دن بغیر کھائے پیئے زندہ رہ سکتا تھا زندہ رہا، اور پھر اسی خزانہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔

تو یہ روپیہ پسہ اپنی ذات میں انسان کو نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے، جب تک کہ نظام درست نہ ہو، اور جب تک راستہ درست نہ ہو۔

## گنتی میں اگرچہ دولت زیادہ ہو جائے گی

آج کی دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر عورت کو گھر سے باہر نکالیں گے تو ہمیں درکر رز ہمیٹا ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں پروڈیکشن زیادہ ہو گی اور دولت زیادہ ہو گی، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ گنتی میں تو دولت زیادہ ہو جائیگی، لیکن جب تمہارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں تمہاری قومی ترقی کا راستہ بند ہو گیا یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔

دولت کمانے کا مقصد کیا ہے؟

اس لئے قرآن کریم میں جو آیت :

وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ

ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے عورت کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ زندگی کی یہ اہم ترین خدمت انجام دے کر اپنے فیلی سشم کو استوار کرے، اور اپنے گھر کو بنھالے۔ اس کے تو کوئی معنی نہیں ہیں کہ گھر کا گھر اجڑا پڑا ہے، اور ساری توجہ باہر کے کاموں میں صرف ہو رہی ہے۔ باہرہ کر انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ تو اس لئے کھاتا ہے کہ گھر کے اندر آکر سکون حاصل کرے، لیکن اگر گھر کا سکون جاہ ہے، تو پھر اس نے جتنی کچھ کمائی کی ہو، وہ کمائی بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

### بچے کو ماں کی مامتا کی ضرورت ہے

اس لئے گھر کے نظام کو استوار کرنے کے لئے اور بچوں کی صحیح تربیت کے لئے اور بچوں کو صحیح فکر پڑھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرائض عورت کے سپرد کئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود یہ بچے ماں اور باپ دونوں کا ہوتا ہے، لیکن جتنا پیار اور جتنی مامتا اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں رکھی ہے باپ کے دل میں اتنی نہیں رکھی، اور بچے کو جتنا پیار اپنی ماں سے ہوتا ہے اپنے باپ سے اتنا نہیں ہوتا، اور جب بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ چاہے کسی بھی جگہ پر ہو، وہ فوراً ماں کو پکارے گا، باپ کو نہیں پکارے گا، اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ ماں میری مصیبت کا علاج کر سکتی ہے، اور اسی محبت کے رشتے سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ اور جو کام ماں انجام دے سکتی ہے، وہ باپ انجام نہیں دے سکتا،

اگر کوئی باپ یہ چاہے کہ میں ماں کی مدد کے بغیر بچے کی پرورش خود کرلوں، تو باپ کے لئے یہ بات ممکن نہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آج کل لوگ بچوں کو نہ سریوں کے اندر پالتے ہیں۔ یاد رکھو! کوئی بھی نہ سری بچے کو ماں کی مامتا فراہم نہیں کر سکتی، بچے کو کسی پولوzi فارم قسم کے ادارے کی ضرورت نہیں، بلکہ بچے کو ماں کی مامتا اور اس کی شفقت کو حاصل کرنے کے لئے یہ لازم ہے کہ عورت گھر کا نظام سنبھالے۔ اگر کوئی عورت گھر کا نظام نہیں سنبھال رہی ہے تو وہ فطرت سے بغاوت کر رہی ہے اور فطرت سے بغاوت کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اس وقت آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔

### بڑے کارناموں کی بنیاد "گھر" ہے

قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا دیا تھا کہ :

وَقُرْبَتِ فِي بُيُّونِ تِكْنَةٍ

یعنی اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یہ گھر ہی تمہاری دنیا و آخرت ہے، یہ گھر تمہاری زندگی ہے، اور یہ خیال مت کرو کہ مرد گھر سے باہر نکل کر بڑے بڑے کام انجام دے رہا ہے، لہذا میں بھی باہر نکل کر بڑے بڑے کارنامے انجام دوں ارے یہ تو سوچو کہ سارے بڑے کارناموں کی بنیاد گھر ہے، اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت کروی، اور ان کے دلوں میں ایمان پیدا کرویا، اور ان کے اندر تقویٰ اور عمل صالح پیدا کر لیا تو یقین رکھو کہ مرد باہر نکل کر جتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے، ان تمام کارناموں پر تمہارا یہ کارنامہ فوقیت رکھے گا کہ تم نے ایک بچے کی تربیت دین کے مطابق کر دی۔

مغرب کے الٹے پروپیگنڈے نے اور مغرب کی اندھی تقلید نے ہمارے معاشرے کی خواتین سے اولاد کی دینی تربیت کی فکر کو رفتہ رفتہ ختم کرنا شروع

کر دیا ہے اور جو خواتین اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ بھی کبھی کبھی یہ سوچنے لگتی ہیں کہ واقعۃ یہ لوگ درست کہتے ہیں کہ ہم گھر کی چار دیواری میں مقید اور بند ہو گئے ہیں، اور جو خواتین گھروں سے باہر نکل رہی ہیں شاید یہ ہم سے زیادہ ترقی یافتے ہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ عورت جو خدمت اپنے گھر میں بیٹھ کر انعام دے رہی ہے، یاد رکھوں کا کوئی بدل نہیں ہے، اور وہ خدمت گھر سے باہر نکل کر، بازاروں میں جا کر، دو کانوں پر بیٹھ کر ہمیں انعام دی جاسکتی، جو گھر میں بیٹھ کر انعام دی جاسکتی ہے۔

### تسکین و راحت پرده کے اندر ہے

اور خواتین یہ نہ سمجھیں کہ یہ پرده ہمارے لئے دشواری کا سبب ہے، بلکہ عورت کی فطرت میں پرده داخل ہے، اور ”عورت“ کے معنی ہی ”چھپانے والی چیز“ کے ہیں، اور پرده عورت کی سرشت میں داخل ہے۔ اگر فطرت منع ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن جو تسلیم اور راحت پرده کی حالت میں ہوگی، وہ تسلیم بے پردنگی اور خلمل کھلا اور علامیہ رہنے کی حالت میں نہیں ہوگی، لہذا پرده کا تحفظ حیاء کا ایک لازمی حصہ ہے۔

### ایے بال قیامت کی نشانی ہے

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آج کے حالات دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ :

”قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی کہ ان کے سر کے بال لاغراونٹ کے کوہاں کی طرح ہوں گے۔“

اوٹ کے کوہاں کی طرح بال بنانے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے

زنانے میں تصور بھی نہیں آسکتا تھا۔ آج دیکھ لیں کہ عورتیں اونٹوں کے کوہاں کی طرح بال بنا رہی ہیں۔

### لباس کے اندر بھی عیاں

اور فرمایا کہ وہ عورتیں بظاہر تو لباس پہنی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ لباس ایسے ہوں گے کہ جن سے ستر کا مقصد حاصل نہیں ہو گا، اس لئے کہ وہ لباس اتنا باریک ہو گا، یا وہ لباس اتنا چست ہو گا کہ اس کی وجہ سے جسم کے تمام نشیب و فراز عیاں ہو جائیں گے، اور یہ سب حیاء کے ختم ہونے کا نتیجہ ہو گا۔ آج سے پہلے اس کا تصور اور خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ عورت ایسا لباس پہنے گی، اس لئے کہ اس کے دل میں حیا تھی، اور اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ ایسا لباس پہننا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن آج سینہ کھلا ہوا ہے، گلہ کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہیں، یہ کیسا لباس ہوا؟ لباس تو سترپوشی کے لئے تھا جو عورت کو اس کی اصل فطرت کی طرف لوٹانے کے لئے تھا۔ وہ لباس سترپوشی کا کام دینے کے بعد جسم کو اور زیادہ نمایاں کرنے کا کام انجام دے رہا ہے۔

### مخلوط تقریبات کا سیلا ب

شادی بیاہ کی تقریبات میں بے حیائی کے مناظران گھر انوں میں بھی نظر آنے لگے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جن کے مرد مسجد میں صفر اول میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھر انوں کی شادی بیاہ کی تقریبات میں جا کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں اس بات کا خیال اور تصور نہیں آسکتا تھا کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہو گا، لیکن اب تو مردوں اور عورتوں کی مخلوط دعوتوں کا ایک سیلا ب ہے اور عورتیں بن سنور کر، سنگھار پنار کر کے، زیب و زیست سے آراستہ ہو کر ان مخلوط دعوتوں میں شریک

ہوتی ہیں۔ نہ پرده کا کوئی تصور ہے، نہ حیاء کا کوئی خیال ہے۔

## یہ بد امنی کیوں نہ ہو؟

اور پھر ان تقریبات کی ویڈیو فلمیں بن رہی ہیں، تاکہ جو کوئی اس تقریب میں شریک نہ ہو سکا، اور اس نظارے سے لطف اندوز نہیں ہو سکا، اس کے لئے اس نظارہ سے لطف اندوز ہونے کے لئے ویڈیو فلم تیار ہے، اس کے ذریعہ وہ اس کا نظارہ کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی دیندار ہیں، پھر بھی نمازی پر ہیز گار ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کان پر جوں نہیں ریتگت، اور ماتھے پر شکن نہیں آتی، اور دل میں اس کو ختم کرنے کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ باتے کیا پھر بھی یہ فتنے نہ آئیں؟ کیا پھر بھی بد امنی اور بے سکونی پیدا نہ ہو؟ اور آج کل ہر ایک کی جان و مال و عزت آبرو خطرے میں ہے۔ یہ سب کیوں نہ ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیمت ہے اور خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ایسا قہر ہم پر نازل نہیں ہوتا کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں، ورنہ ہمارے اعمال تو سارے ایسے ہیں کہ ایک ہمراور ایک عذاب کے ذریعہ سب کو ہلاک کر دیا جاتا۔

## ہم اپنی اولاد کو جہنم کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں

اور یہ سب گھر کے بڑوں کی غفلت اور بے حصی کا نتیجہ ہے کہ ان کے دل سے احساس ختم ہو گیا، کوئی کہنے والا اور کوئی نوکنے والا نہیں رہا، بچے جہنم کی طرف دوڑے ہوئے بارہے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر روکنے والا نہیں ہے، کسی باپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اپنی اولاد کو کس گڑھے میں دھکیل رہے ہیں۔ اور دن رات سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کو سمجھاتا ہے تو ان بڑوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ امرے بھائی! یہ تو

نوجوان ہیں، لگے رہئے دو، ان کے کاموں میں رُکاوٹ نہ ڈالو۔ اس طرح ان اولاد کے سامنے ہتھیار ڈال کر تیجہ یہاں تک پہنچ گیا۔

### ابھی پانی سر سے نہیں گزرا

اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا۔ اب بھی اگر گھر کے سربراہ اور گھر کے ذمہ دار اس بات کا تہیہ کر لیں کہ یہ چند کام نہیں کرنے دیں گے، ہمارے گھر میں مرد و عورت کا مخلوط اجتماع نہیں ہو گا، ہمارے گھر میں کوئی تقریب عورتوں کی بے پر دگی کے ساتھ نہیں ہو گی، وذیو فلم نہیں بنے گی۔ اگر گھر کے پڑے ان باتوں کا تہیہ کر لیں تو اب بھی اس سیلا ب پر بند باندھا جاسکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سیلا ب قابو سے باہر ہوا ہو، لیکن اس وقت سے ڈرو کہ جب کوئی کہنے والا خیرخواہ اس صورت حال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اور نہیں کر سکے گا۔ کم از کم وہ گھرانے جوانے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو دین اور اسلام کے نام لیوا ہیں، اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ تو کم از کم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم یہ مخلوط اجتماع نہیں ہونے دیں گے۔

### ایسے اجتماعات کا بائیکاٹ کرو

ہمارے بزرگوں نے بائیکاٹ وغیرہ کے طریقے نہیں سکھائے، لیکن یاد رکھو! ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یا تو ہماری یہ بات مانی جائے گی، ورنہ اس تقریب میں ہماری شرکت نہیں ہو گی۔ اگر شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں، اور مخلوط اجتماعات ہو رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس دعوت میں نہیں جاتے تو خاندان والوں کو شکایت ہو جائے گی، کہ آپ اس مخلوط دعوت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ ارے یہ تو سوچو کہ ان کی شکایت کی تو آپ کو پرواہ ہے، لیکن ان کو آپ کی شکایت کی پرواہ نہیں۔

اگر تم پرہ نشیں خاتون ہو، اور وہ تم کو دعوت میں بانا چاہتے ہیں تو انہوں نے تمہارے لئے پرہ کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ جب انہوں نے تمہارا اتنا خیال نہیں کیا، تو پھر تم پر بھی ان کا خیال کرنا اجب نہیں ہے، ان سے صاف صاف کہہ دو کہ، تم ایسی تقریب میں شریک نہیں ہوں گی۔ جب تک کچھ خواتین ڈٹ کر یہ فیصلہ نہیں کریں گی، یقین رکھو کہ اس وقت تک یہ سیلا بند نہیں ہو گا۔ کب تک، تھیار ڈالتے جاؤ گے؟ کب تک ان کے آگے پر ڈالتے جاؤ گے؟ یہ سیلا ب کہاں تک پہنچے گا؟

## دنیا والوں کا کب تک خیال کرو گے؟

ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بختی بزرگ پیدا فرمائے تھے، ان کے گھر کی بیٹھک میں فرشی نشت تھی، گھر کی خواتین کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، فرشی نشت کا زمانہ نہیں رہا، اس لئے آکر مولانا سے کہا کہ اب آپ یہ فرشی نشت ختم کر دیں اور صوفے وغیرہ لگادیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ مجھے تو نہ صوفے کا شوق ہے اور نہ مجھے اس پر آرام ملتا ہے، مجھے فرش پر بیٹھ کر آرام ملتا ہے، میں تو اسی پر بیٹھ کر کام کروں گا۔ خواتین نے کہا کہ آپ کو اس پر آرام ملتا ہے مگر دنیا والوں کا کچھ خیال کر لیا کریں، جو آپ کے پاس ملنے کے لئے آتے ہیں ان کا ہی کچھ خیال کر لیں۔ اس پر حضرت مولانا نے کیا عجیب جواب دیا، فرمایا : بی بی! دنیا والوں کا تو میں خیال کروں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ دنیا والوں نے میرا کیا خیال کر لیا؟ میری وجہ سے کسی نے اپنے طرز زندگی میں، یا کسی عنے اپنے کسی کام میں کوئی تبدیلی لائی؟ جب انہوں نے میرا خیال نہیں کیا تو میں ان کا کیوں خیال کروں؟

## دنیا والوں کے بُرا مانے کی پرواہ مت کرو

لہذا جس کے دل میں تمہارے پردوے کا احترام نہیں، جس کے دل میں تمہارے پردوے کی وقعت اور عظمت نہیں، وہ اگر تمہارا خیال نہیں کرتا تو تم ان کا خیال کیوں کرتی ہو؟ حالانکہ اگر ایک بے پردوہ عورت، عورتوں کے لئے علیحدہ انتظام کی ہوئی جگہ میں آکر بیٹھ جائے، اور مردوں کے سامنے نہ آئے، تو اس میں اس کا کوئی نقصان اور کوئی خرابی نہیں، لیکن اگر پردوہ دار عورت مردوں کے سامنے چلی جائے، تو اس پر قیامت گزر جائے گی۔ اگر پردوہ کا انتظام نہ ہونے کے باوجود تم صرف اس لئے جاتی ہو تاکہ وہ بُرانہ مانیں، کہیں ان کو بُرانہ لگ جائے۔ ارے، کبھی تم بھی تو بُرا مانا کرو کہ ہم اس بات کو بُرا مانتے ہیں کہ ہمیں ایسی دعوت میں کیوں بلایا جا رہا ہے، ہمارے لئے ایسی دعوتیں کیوں کی جاتی ہیں جس میں پردوہ کا انتظام نہیں ہے۔ یاد رکھو! جب تک یہ نہیں کریں گی، یہ سیلاپ نہیں رُکے گا۔

## ان مردوں کو بڑا ہر نکال دیا جائے

جہاں تقریبات میں بظاہر خواتین کا انتظام علیحدہ بھی ہے، مردوں کے لئے علیحدہ شامیانے ہیں، اور عورتوں کے لئے علیحدہ، لیکن اس میں بھی یہ بتا ہے کہ عورتوں والے حصے میں بھی مردوں کا ایک طوفان ہوتا ہے، مرد آرہے ہیں جا رہے ہیں، فہری مذاق ہورہا ہے، دل لگی ہورہی ہے، فلمیں بن رہی ہیں، یہ سب کچھ ہورہا ہے اور بظاہر دیکھنے میں الگ انتظام ہے۔ ایسے موقع پر خواتین کھڑے ہو کر کیوں یہ نہیں کہتیں کہ مرد یہاں کیوں آرہے ہیں؟ ہم پردوہ نہیں خواتین ہیں، لہذا ان مردوں کو بڑا ہر نکالا جائے۔

## دین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور پھر خاموشی!

شادی بیاہ میں بہت سے معاملات پر لایی جھٹکے ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات پر نارا ٹنگیاں ہو جاتی ہیں کہ ہمارا فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا، اور ہمارا فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا، اسی پر لایی جھٹکے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تم اگر پرده نشین خاتون ہو تو اور چیزوں پر نارا افسکی کا اظہار نہ کرو، اگر تمہاری زیادہ آؤ بھگت نہیں ہوئی تو اس پر نارا افسکی کا اظہار نہ کرو، لیکن جب تمہارے دین پر ڈاکہ ڈالا جائے تو وہاں تمہارے لئے خاموش رہنا جائز نہیں، کھڑے ہو کر بھری تقریب میں کہہ دو کہ یہ چیز ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے۔ جب تک کچھ مرد اور خواتین اس بات کا ہمیہ نہیں کر لیں گے اس وقت تک یاد رکھو! حیاء کا تحفظ نہیں ہو سکے گا، اور یہ سیلاپ بودھتا چلا جائے گا۔

## ورنه عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ

بہر حال! ہم لوگ جو کم از کم دین کا نام لیتے ہیں، جب تک اس کا عزم اور ہمیہ نہیں کر لیں گے، اس وقت تک یہ سیلاپ نہیں رُکے گا۔ خدا کے لئے اس کا عزم کر لیں، ورنہ پھر اللہ کے عذاب کے لئے تیار رہیں، کسی کے اندر اگر اس عذاب کے سہارنے کی ہمت ہے تو وہ اس کے لئے تیار ہو جائے، یا پھر اس کا عزم کر لیں۔

## اپنا ماحول خود بناؤ

ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ بڑے

کام کی بات فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھنے کی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ :

”تم کہتے ہو کہ ماحول خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، ارے تم اپنا ماحول خود بناؤ، تمہارے تعلقات ایسے لوگوں سے ہونے چاہئیں جو ان اصولوں میں تمہارے ہم نوا ہوں۔ جو لوگ ان اصولوں میں تمہارے ہم نوا نہیں، ان کا راستہ الگ ہے، اور تمہارا راستہ الگ ہے۔ لہذا اپنا ایک ایسا حلقة احباب تیار کرو جو ایک دوسرے کے ساتھ ان معاملات میں تعاون کے لئے تیار ہو۔ اور ایسے لوگوں سے تعلق گھٹاؤ جو ایسے معاملات میں تمہارے راستے میں رکاوٹ ہیں۔“

### آزادانہ میل جوں کے نتائج

بہر حال! عورت کے گھر سے باہر نکلنے پر ایک خرابی تو یہ ہوتی کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، اور دوسرا خرابی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کی کشش رکھی ہے، اور عورت کے دل میں مرد کی کشش رکھی ہے، یہ فطری بات ہے، آپ اس پر کتنے بھی پردے ڈالیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، جس کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ تو جب ان دونوں کے درمیان آزادانہ میل جوں ہو گا، اور آزادانہ اجتماع ہو گا اور ہر وقت میل مlap ہو گا، اور ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وہ کشش جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے، کسی نہ کسی وقت رنگ لا کر گناہ پر آمادہ کرے گی۔ اور اس کے نتیجے میں وہ یقیناً گناہ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ اپنی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مرد اور عورت کے آزادانہ میل جوں کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں اس وقت اس ملک میں کوئی مرد یا عورت ناجائز طریقے سے اپنی جسی

تسکین کرنا چاہے تو اس کے دروازے چوپٹ کھلے ہیں، کوئی قانون ان کو روئے نہیں ہے، کوئی معاشرہ ان کو روئے نہیں ہے، کوئی معاشرتی رکاوٹ ان پر عائد نہیں، لیکن اس کے باوجود اس ملک (امریکہ) میں زنا بالجبر کے واقعات ساری دنیا سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ کل ہی کے اخبار میں میں نے پڑھا کہ اس ملک (امریکہ) میں ہر ۳۶ سینٹ پر ایک زنا بالجبر کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ جس ملک میں رضامندی کے ساتھ جنسی خواہش پوری کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہو، اس کے باوجود زنا بالجبرا تی کثرت سے ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

### جنسی خواہش کی تسکین کا راستہ کیا ہے؟

وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اپنی فطری حدود سے باہر نکل گیا ہے، جب تک انسان فطری حدود کے اندر رہ کر جنسی خواہشات کی تسکین کا راستہ اختیار کرے گا، اس وقت تک انسان جنسی خواہشات کی تکمیل کے ذریعہ سکون حاصل کرے گا۔ لیکن جب وہ فطری حدود سے آگے بڑھے گا تو پھر وہ جنسی خواہش ایک نہ مٹنے والی بھوک اور نہ بچنے والی پیاس میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسی بھوک ہے جو کبھی نہیں مٹتی۔ اور ایسی پیاس ہے جو کبھی نہیں بچتی، اور اس کے بعد پھر انسان کسی ایک حد پر جا کر قانع نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید کا طلب گار رہتا ہے۔

اس لئے مرد اور عورت کے آزادانہ میل جوں کا وہی نتیجہ ہو گا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ اس حکم سے بغاوت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ :

﴿وَقَوْنَ فِي نِيُوتُكَنَ﴾

اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ آج ہم یہ حکم چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں۔

## ضرورت کے وقت گھر سے باہر جانے کی اجازت

البتہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عورت بھی ایک انسان ہے، اس کو بھی گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آسکتی ہے، اس کے دل میں بھی گھر سے باہر نکلنے کی خواہش ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنے عنزیزوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرے، اور بعض اوقات اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو ان کاموں کے لئے گھر سے باہر جانے کی اجازت ہونی چاہئے۔

خوب سمجھ لجئے! کہ یہ جو حکم ہے کہ گھر میں قرار سے رہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں تالہ لگا کر عورت کو اندر بند کر دیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، البتہ ضرورت کے وقت وہ گھر سے باہر بھی جاسکتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر کسی زمانے میں بھی روزی کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی، شادی سے پہلے اس کی مکمل کفالت باب کے ذمے ہے، اور شادی کے بعد اس کی تمام کفالت شوہر کے ذمے ہے، لیکن جس عورت کا نہ باب ہو، نہ شوہر ہو اور نہ معاشی کفالت کا کوئی ذریعہ موجود ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کو معاشی ضرورت کے لئے گھر سے باہر جانا پڑے گا، اس صورت میں باہر جانے کی اجازت ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جائز تفریح کے لئے بھی گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ گھر سے باہر بھی لے کر گئے۔

کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی دعوت ہے؟

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ :

﴿اعاشة معی؟﴾

کیا عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے یا نہیں؟ چونکہ وہ زمانہ سادگی اور بے تکلفی کا تھا، اور اس وقت ان صحابی کے ذہن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلانے کا ارادہ نہیں تھا، اس لئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ! میں صرف آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف جواب دے دیا :

﴿إذا حَلَّا﴾

یعنی اگر عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی دعوت نہیں تو میں بھی نہیں آتا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ صحابی پھر حاضر ہوئے، اور عرض کیا : یا رسول اللہ! میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ :

﴿اعاشة معی؟﴾

کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے یا نہیں؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ! صرف آپ کی دعوت ہے، آپ نے پھر انکار فرمادیا کہ پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ کچھ عرصہ کے بعد تیسری مرتبہ آگر پھر دعوت دی، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول فرمائیں، آپ نے پھر وہی پوچھا کہ :

﴿أَعْشَثَهُ مَعِي؟﴾

کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے؟ اب کی مرتبہ انہوں نے کہا :

﴿نَعَمْ! يَا رَسُولَ اللَّهِ!﴾

جی ہاں یا رسول اللہ! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی آپ کے ساتھ دعوت ہے، آپ نے فرمایا :

﴿إِذَا فَنِعْمَ!﴾

اب میں دعوت قبول کرتا ہوں۔

(صحیح مسلم، کتاب الاطعمة، باب ما یفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا أَتَبَعَهُ غَيْرٌ مِّنْ دُعَاءِ صَاحِبِ الطَّعَامِ، حدیث  
نمبر ۲۰۳)

## آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کی وجہ

روایت میں تو اس کی صراحت نہیں ہے، البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ ضرور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے جانے کی شرط لگاتے، بلکہ آپ کا معمول یہی تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ اس کو قبول فرمائیتے تھے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو صحابی آپ کی دعوت کر رہے تھے، شاید ان کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے کوئی میل اور کدورت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کدورت کو دور کرنا چاہتے تھے، اس لئے آپ نے بار بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے جانے کی شرط

## بیوی کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہے

یہ دعوت میں طیبہ میں نہیں تھی، بلکہ مدینہ طیبہ سے باہر کچھ فاصلے پر ایک بستی میں یہ دعوت تھی، اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر چلے، راستے میں ایک کھلا میدان آیا، جس میں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا، اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اب ظاہر ہے کہ دوڑ لگانا ایک جائز تفریح تھی، اس جائز تفریح کا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ کیونکہ ایک خاتون کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس قسم کی تفریح کی اجازت ہے، بشرطیکہ جائز حدود میں ہو، بے پردوگی کے ساتھ نہ ہو، اور غیر محروم کے ساتھ نہ ہو۔

(ابوداؤد کتاب الجماد، باب فی السنن علی الرجل، حدیث نمبر ۲۵۷۸)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا واقعہ اور دوڑنے کا واقعہ ایک ہی سفر میں پیش آیا، البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں واقعات علیحدہ علیحدہ سفر میں پیش آئے ہیں۔ (مین)

## زیب وزینت کے ساتھ نکلتا جائز نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، مگر باہر نکلنے کے لئے یہ شرط لگادی کہ پردوے کی پابندی ہونی چاہئے، اور اپنے جسم کی نمائش نہیں ہونی چاہئے، اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ :

﴿ وَلَا تَبْرُجْ جَنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾

یعنی اگر کبھی نکلنے کی ضرورت ہو تو اس طرح زیب وزینت کے ساتھ نمائش کرتی ہوئی نہ نکلو، جیسا کہ جاہلیت کی عورتوں نکلا کرتی تھیں، اور ایسی آرائش اور زیب وزینت کے ساتھ نہ نکلو جس سے لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو، بلکہ حجاب کی پابندی کے ساتھ پرده کر کے نکلو، اور جسم ڈھیلے ڈھالے لباس میں چھپا ہوا ہو۔ ہمارے زمانے میں تو برقع کا رواج ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چادریں استعمال ہوتی تھیں، اور وہ چادریں سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو چھپا لیتی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تو دی گئی، لیکن اس کے باہر نکلنے سے فتنے کا انذیرہ ہے، اور اس فتنے کا سرباب پرده کے ذریعہ ہو جائے گا، اس لئے حجاب کا حکم عائد کیا گیا۔

کیا پرده کا حکم صرف ازواجِ مطہرات کو تھا؟

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پرده کا حکم صرف ازواجِ مطہرات کے لئے تھا۔ اور یہ حکم ان کے علاوہ دوسروں عورتوں کے لئے نہیں ہے، اور اسی مندرجہ بالا آیت ہی سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب صرف ازواجِ مطہرات کو کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو! یہ بات نقلی اور عقلي ہر اعتبار سے غلط ہے، اس لئے کہ ایک طرف تو اس آیت میں شریعت کے بہت سے احکام دیئے گئے ہیں، مثلاً ایک حکم تو یہی ہے کہ :

﴿ وَلَا تَبْرُجْ جَنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾

”جاہلیت کی عورتوں کی طرح خوب زیب وزینت اور آرائش کر کے باہر نہ نکلو۔“

تو کیا یہ حکم صرف ازواجِ مطہرات کو ہے؟ اور دوسری عورتوں کو اس کی اجازت ہے کہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کر کے باہر نکلا کریں؟ ظاہر کہ دوسری عورتوں کو بھی اجازت نہیں۔ اور آگے ایک حکم یہ دیا کہ :

﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾

”اور نماز قائم کرو۔“

تو کیا نماز قائم کرنے کا حکم صرف ازواجِ مطہرات کے لئے ہے؟ اور دوسری عورتوں کو نماز کا حکم نہیں؟ اور اس کے بعد ایک حکم یہ دیا گیا کہ :

﴿وَاتَّبِعُوا مَاكَاهَةَ﴾

”اور زکوٰۃ ادا کرو۔“

تو کیا زکوٰۃ کا حکم صرف ازواجِ مطہرات کو ہے؟ دوسری عورتوں کو نہیں؟ اور آگے فرمایا کہ :

﴿وَاطْغِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

”اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔“

تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم صرف ازواجِ مطہرات کو ہے؟ دوسری عورتوں کو نہیں ہے؟ پوری آیت کا سیاق و سبق یہ تارہا ہے کہ اس آیت میں جتنے احکام ہیں، وہ سب کے لئے عام ہیں، اگرچہ برآوراست خطاب ازواجِ مطہرات کو ہے، لیکن ان کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو خطاب ہے۔

## یہ پاکیزہ خواتین تھیں

دوسری بات یہ ہے کہ حجاب اور پردے کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر بے پر دگی کے نتیجے میں جو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا سدیا ب کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فتنہ صرف ازواجِ مطہرات کے باہر نکلنے سے پیدا ہو گا؟ معاذ اللہ! وہ ازواجِ مطہرات کہ ان جیسی پاکیزہ خواتین اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہو سیں، کیا انہیں سے فتنے کا خطرہ تھا؟ کیا دوسری عورتوں کے نکلنے سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے؟ تو جب ازواجِ مطہرات کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پردہ کے ساتھ نکلو تو دوسری عورتوں کو یہ حکم بطریق اولی دیا جائے گا، اس لئے کہ ان سے فتنہ کا اندیشہ زیادہ ہے۔

### پردہ کا حکم تمام خواتین کو ہے

اس کے علاوہ دوسری آیت میں پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے۔

فرمایا :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَنْثِرْ وَاجْلِكَ وَبَنِاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ

بِعْدُنَّ يَعْلَمُنَّ مِنْ جَلَالِ سِيِّدِهِنَّ۔ (سورة الحذاب: ۵۹)

”اے نبی! اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور تمام مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنے چہروں پر اپنی چادریں لٹکالیا کریں۔“

اس سے زیادہ صاف اور واضح حکم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ”جلایب“ جمع ہے۔ ”جلباب“ کی اور ”جلباب“ اس چادر کو کہا جاتا ہے جس میں سر سے پاؤں

تک عورت کا پورا جسم اس میں چھپا ہوا ہو۔ اور پھر قرآن کریم نے صرف چادر پہننے کا حکم نہیں دیا، بلکہ لفظ ”نِدْنَيْنَ“ لائے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ چادر آگے ڈھلکالیں، تاکہ چہرہ بھی نمایاں نہ ہو، اور اس چادر میں چھپ جائے۔ اب اس سے زیادہ واضح اور کیا حکم ہو سکتا ہے۔

### حالتِ احرام میں پردہ کا طریقہ

آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موقع پر احرام کی حالت میں عورت کے لئے کپڑے کو چرے پر لگانا جائز نہیں، مرد سر نہیں ڈھک سکتے، اور عورتیں چہرہ نہیں ڈھک سکتیں، تو جب حج کا موسم آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو حج کرنے کے لئے تشریف لے گئے، اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ ایک طرف تو پردہ کا حکم ہے، اور دوسری طرف یہ حکم ہے کہ حالتِ احرام میں کپڑا منہ پر نہ لگانا چاہئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم حج کے سفر پر اونٹ پر بیٹھ کر جا رہی تھیں تو ہم نے اپنے اپنے ماٹھے پر ایک لکڑی لگائی ہوئی تھی، تو راستے میں جب سامنے کوئی اجنبی نہ ہوتا تو ہم اپنے نقاب اٹھے رہنے دیتیں، اور جب کوئی قافلہ یا اجنبی مرد سامنے آتا دکھائی دیتا تو ہم اپنا نقاب اس لکڑے پر ڈال دیتیں، تاکہ وہ نقاب چرے پر نہ لگے، اور پردہ بھی ہو جائے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں بھی ازواج مطہرات نے پردہ کو ترک نہیں فرمایا۔

(ابوداؤد کتاب الحج، باب فی الحرمۃ تنطی و جما حدیث نمبر ۱۸۳۳)

### ایک خاتون کا پردہ کا اہتمام

ابوداؤد کی روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا ہوا تھا، جنگ کے بعد تمام مسلمان واپس آئے،

لیکن اس کا بیٹا واپس نہیں آیا، اب ظاہر ہے کہ اس وقت ماں کی بے تابی کی کیا کیفیت ہو گی، اور اس بے تابی کے عالم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لئے دوڑیں کہ میرے بیٹے کا کیا بنا؟ اور جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نپوچھا کہ یا رسول اللہ! میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارا بیٹا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اب بیٹے کے مرنے کی اطلاع اس پر بجلی بن کر گری، اس اطلاع پر اس نے جس صبر و ضبط سے کام لیا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اسی عالم میں کسی شخص نے اس خاتون سے یہ پوچھا کہ اے خاتون! تم اتنی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اس حالت میں بھی تم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے؟ اور اس وقت بھی نقاب ڈالنا نہیں بھولیں؟ جواب میں اس خاتون نے کہا کہ :

﴿ ان اُنہِ رَأَى أَبْنَى فَلَنْ أُنْهِى أَحْيَانٍ ﴾

”میرا بیٹا توفت ہوا ہے، لیکن میری حیاء تو فوت نہیں ہوئی۔“  
یعنی میرے بیٹے کا جنازہ لکلا ہے، لیکن میری حیاء کا جنازہ تو نہیں لکلا۔ تو اس حالت میں بھی پر وہ کا اتنا اہتمام فرمایا۔

(ابوداؤد کتاب الجماد باب فضل قتال الرؤوم علی غیرهم من الاعم۔ حدیث نمبر ۲۳۸۸)

## اہل مغرب کے طعنوں سے مرعوب نہ ہوں

عرضی یہ کرنا تھا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور ازواجِ مطہرات اور صحابیات نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ اب اہل مغرب نے یہ پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے عورتوں کے ساتھ نہیں

ظالمانہ سلوک کیا ہے کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا، ان کے چہروں پر نقاب ڈال دی، اور ان کو ایک کارٹون بنا دیا۔ تو کیا مغرب کے اس مذاق اور پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کو چھوڑ دیں؟ یا درکھو! جب ہمارے اپنے دلوں میں یہ ایمان اور اعتقاد پیدا ہو جائے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ سیکھا ہے، وہی طریقہ برحق ہے تو پھر اہلِ مغرب کے طعنوں کی پرواہ نہیں کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے، کوئی طمعے دیتا ہے تو دیا کرے، یہ طمعے تو مسلمان کے گلے کا زیور ہیں، انبیاء علیہم السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے، کیا انہوں نے کچھ کم طمعے ہے؟ جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کو یہ طمعے دئے گئے کہ یہ تو پسمندہ لوگ ہیں، یہ دیقانوس اور ربعت پند ہیں، یہ ہمیں زندگی کی راحتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے طمعے انبیاء کو دیئے گئے۔ اور تم جب مؤمن ہو تو انبیاء کے وارث ہو، اور جس طرح وراثت میں دوسری چیزیں ملتی ہیں، یہ طمعے بھی ملیں گے، کیا اس وراثت سے گھبرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ دو گے؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو پھر ان طعنوں کو سننے کے لئے کمر کو مضبوط کر کے بیٹھنا ہو گا۔

## پھر بھی تیرے درجے کے شہری رہو گے

اور اگر فرض کرو کہ ان طعنوں کے نتیجے میں ان کے کہنے پر عمل کر لیا، پھر بھی تیرے درجے کے شہری رہو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں مت بٹھاؤ اور ان کو پرده نہ کراؤ، جاپ نہ کراؤ، اب آپ نے ان کی بات مانتے ہوئے اس پر عمل کر لیا، اور عورتوں کو گھر بے باہر نکال دیا، ان کا پرده بھی اتار دیا، دوپہر بھی اتار دیا، بھی کچھ کر لیا، لیکن کیا انہوں نے یہ مان لیا کہ تم ہمارے ہو؟ اور کیا انہوں نے تمہیں وہی حقوق دے دیئے؟ کیا تمہیں وہی عزت دے

دی؟ نہیں، بلکہ اب بھی تم رجعت پسند اور دیانوس ہو۔ اور اب بھی جب تمہارا نام آئے گا تو طعنوں کے ساتھ آئے گا، اگر تم نے سرستے لے کر پاؤں تک ہر جیز میں ان کی بات مال لی، پھر بھی تم تیرے درجے کے شہری رہو گے۔

## کل ہم ان کا مذاق اڑائیں گے

لیکن اس کے برخلاف اگر تم نے ان طعنوں سے ایک مرتبہ صرف نظر کر لی، اور یہ سوچا کہ یہ لوگ تو طمعنے دیا ہی کریں گے، اور بُرا کہتے ہی رہیں گے، لیکن ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلانا ہے، اور ازواج مطہرات کے راستے پر چلانا ہے تو پھر ہزاروں طمعنے دیں، اور ہمارا مذاق اڑائیں، اور ہم پر نہیں ہمیں پرواہ نہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم ان پر نہیں گے، چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کہ :

فَالَّذِيْتَ أَمْتَوْا مِنِ الْكُفَّارِ يَعْصِمُهُنَّ هُنَّ عَلَى الْأَرَأَيْكَ  
يَيْتُظْرَفُونَ هُنَّ (سورة المطففين: ۲۳)

کفار کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفار مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں تو یہ معاملہ کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کر ان کی ہنسی مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے کوئی مسلمان گزرتا تو یہ لوگ ایک دوسرے کو اشارے کرتے کہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے۔ لیکن جب آخرت کا مرحلہ آئے گا تو یہ ایمان والے کافروں پر نہیں گے، اور صوفوں پر بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے ہوں گے، انشاء اللہ۔ یہ دنیا کی زندگی کرنے دن کی ہے؟ یہ کفار کرنے دن ہنسی مذاق اڑائیں گے؟ جس دن آنکھ بند ہوگی، اس دن معلوم ہو گا کہ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے، ان کا انجمام کیا ہوا؟ اور جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا ان کا انجمام کیا ہوا؟ اس لئے بجائے اس کے کہ ہم اس ہنسی سے مرعوب ہو کر اپنا راستہ چھوڑ دیں اور اپنے طریقے کو خیر آباد کہہ

دیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواجِ مطہرات کا راستہ اپنائیں۔ کیونکہ نجات کا راستہ صرف یہی ہے۔ لہذا کفار نہیں، مذاق اڑائیں، طعنہ دیں، جو کچھ چاہیں کریں، لیکن ہم اپنا طریقہ چھوڑنے والے نہیں۔

### عَزَّتُ اسلامَ كُو اخْتِيَارَ كُرْنَے میں ہے

یاد رکھو! جو شخص اس کام کے لئے ہمت کر کے اپنی کمر باندھ لیتا ہے، وہی شخص دنیا سے اپنی عَزَّت بھی کرتا ہے۔ عَزَّت درحقیقت اسلام کو چھوڑنے میں نہیں ہے، بلکہ اسلام کو اختیار کرنے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ :

﴿ انَّ اللَّهَ قَدْ أَعْنَى نَبَالَ اسْلَامَ ﴾

”اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عَزَّت دی ہے وہ اسلام کی بدولت دی ہے۔“  
اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عَزَّت کے بجائے ذلت سے ہمکنار کر دیں گے۔

### داڑھی بھی گئی، اور ملازمت بھی نہیں ملی

میرے ایک بزرگ نے ایک سچا واقعہ سنایا، جو بڑی عبرت کا واقعہ ہے، وہ یہ کہ ان کے ایک دوست لندن میں تھے، اور کسی ملازمت کی تلاش میں تھے، ملازمت کے لئے ایک جگہ اٹھر دیوں دینے کے لئے گئے، اس وقت ان کے چہرے پر داڑھی تھی، جو شخص اٹھر دیوں لے رہا تھا اس نے کہا کہ داڑھی کے ساتھ یہاں کام کرنا مشکل ہے، اس لئے یہ داڑھی ختم کرنی ہو گی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اپنی داڑھی ختم کروں یا نہ کروں۔ اس وقت تو وہ واپس چلے آئے، اور دو تین روز تک دوسری جگہوں پر ملازمت تلاش کرتے رہے اور کمکش میں

بٹا رہے، دوسری ملازمت نہیں مل رہی تھی اور بے روزگار اور پریشان بھی تھے، آخر میں فصلہ کر لیا کہ چلو داڑھی کٹوادیتے ہیں، تاکہ ملازمت تو مل جائے، چنانچہ داڑھی کٹوادی اور اسی جگہ ملازمت کے لئے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ داڑھی کٹوادو تو تمہیں ملازمت مل جائے گی تو میں داڑھی کٹوکر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! اس نے پھر پوچھا کہ آپ اس داڑھی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری سمجھتے تھے؟ جواب دیا کہ میں اس کو ضروری سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ جب آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے تحت داڑھی رکھی تھی، اور اب آپ نے صرف میرے کہنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے وقار نہیں، اور جو شخص اپنے اللہ کا وقار ادا نہ ہو، وہ اپنے افسر کا بھی وقار نہیں ہو سکتا، لہذا اب ہم آپ کو ملازمت پر رکھنے سے معدود ہیں۔ **نَحْسِرُ الدُّنْيَا وَالْأَخْرَةَ** ”داڑھی بھی گئی، اور ملازمت بھی نہ ملی۔“

صرف داڑھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، ان میں کسی کو یہ سوچ کر چھوڑنا کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، یہ بسا اوقات دنیا و آخرت دونوں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔

### چہرے کا بھی پردہ ہے

”مجاہب“ کے بارے میں اتنی بات ضرور عرض کروں کہ ”مجاہب“ میں اصل بات یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم چادر سے یا برقع سے یا کسی ڈھیلے ڈھالے گون سے ڈھکا ہوا ہو، اور بال بھی ڈھکے ہوئے ہوں، اور چہرے کا حکم یہ ہے کہ اصلاً چہرے کا بھی پردہ ہے، اس لئے چہرے پر بھی نقاب ہونا چاہئے۔ اور یہ آیت جو میں نے ابھی ملاوت کی کہ :

﴿يُذِينُنَّ عَيْهِنَّ مِنْ جَلَالِنِيهِنَّ﴾

اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں خواتین یہ کرتی تھیں کہ چادر اپنے اوپر ڈال کر اس کا ایک پلہ چہرے پر ڈال لیتی تھیں، اور صرف آنکھیں کھلی رہتی تھیں، اور باقی چہرہ چادر کے اندر ڈھکا ہوتا تھا، تو ”حجاب“ کا اصل طریقہ یہ ہے، البتہ چونکہ ضروریات بھی پیش آتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے چہرے کی حد تک یہ گنجائش دی ہے کہ جہاں چہرہ کھولنے کی شدید ضرورت داعی ہو، اس وقت صرف چہرہ کھولنے اور ہاتھوں کو گھوٹنے تک کھولنے کی اجازت ہے، ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ چہرہ سیست پورا جسم ڈھکا ہونا چاہئے۔

### مردوں کی عقولوں پر پرده پڑ گیا

بہر حال! یہ ”حجاب“ کے مخفر احکام ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کی پاکیزہ اور پارسازندگی کے لئے حجاب ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، لہذا مردوں کا فرض ہے کہ وہ خواتین کو اس پر آمادہ کریں اور خواتین کا فرض ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ اس وقت بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب بعض اوقات خواتین ”حجاب“ کرنا چاہتی ہیں لیکن مردوں اسے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اکبر اللہ آبادی مرحوم نے بڑا چھا قطعہ کہا ہے کہ :

بے پرده کل جو نظر آئیں چند بیسیاں  
اکبر زمین میں غیرتِ قوی سے گزگیا

پوچھا جوان سے پرده تھمارا وہ کیا ہوا  
کہنے لگیں عقل پر مردوں کی پڑ گیا

آج حقیقت میں پرده تمدود کی عقولوں پر پڑ گیا ہے، وہ پردوے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو غلط خیالات سے نجات عطا فرمائیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمين۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





# دین کی حقیقت

## تایم و رضا

جسٹر مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی



ضبط و ترتیب  
میر عبید اللہ بنین

میمن اسلامک پبلیشورز

۱۸۸/۱۔ یا قت آباد، کراچی

دین کا سارا کسیل یہ ہے کہ کسی خاص عمل کا نام دین نہیں، اپنا شوق پر  
 کرنے کا نام دین نہیں، پئے معمولات پوکر کرنے کا نام دین نہیں۔ بلکہ  
 دین ان کی اتباع کا نام ہے۔ دھ جیسا کہیں، دیسا کرنے کا نام  
 دین ہے، ان کو جو چیز لپند ہے اس کو اختیار کرنے کا نام دین ہے  
 اپنے اپ کو ان کے حوالے کر دینے کا نام دین ہے

# دین کی حقیقت

## تسلیم و رضا

الحمد لله خمده و نستعين به و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له - و اشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهدان سيدنا و سلطانا ونبيانا و مولا نا محمدًا عبد الله و رسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلام تسليةً كثيراً -

أتابعد!

عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقييناً صحيحاً -  
 (صحح عثري كتاب ابن مازن باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الأذمة، حدث مير ۲۹۹۲)

## بیماری اور سفر میں نیک اعمال کا لکھا جانا

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلد صحابہ اور فقہاء صحابہ میں سے ہیں، اور ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے دو مرتبہ بھرتے فریل۔ ایک مرتبہ جہش کی طرف، اور دوسری مرتبہ مدنه طیبہ کی طرف، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی بندہ یہاں ہوتا ہے۔ یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو جو عبادات اور نیک اعمال صحت کی حالت میں یا اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ جب بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ سارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں۔ باوجود یہاں یا یہاں کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر پا رہا ہے، اس لئے کہ اگر وہ تندروست ہوتا، یا اپنے گھر میں ہوتا تو یہ اعمال کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تسلی اور نعمت کی بات بتا دی کہ بیماری میں منذوری اور مجبوری کی وجہ سے جب معمولات چھوٹ رہے ہیں تو اس پر بہت صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کہ اگر تندروست ہوتا تو یہ کام کر لیتا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لکھ رہے ہیں۔

## نماز کسی حالت میں معاف نہیں

لیکن اس کا تعلق صرف نقلی عبادات سے ہے۔ جو عبادات فرض ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ بنے جو تخفیف کر دی۔ اس تخفیف کے ساتھ ان کو انعام دریافتی ہے۔ مثلاً نماز ہے۔ انسان کتنا ہی یہاں ہو۔ بستر مرگ پر ہو۔ اور مرنے کے قریب ہو۔ تب بھی نماز ساقط نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی تو فرمادی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو پیش کر پڑھ لو۔ پیش کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے تو تم کر لو، اگر کچڑے پاک رکھنا بالکل ممکن نہیں تو اسی حالت میں پڑھ لو، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ جب تک انسان کے دم میں دم ہے۔ ہاں! اگر کوئی بے ہوش ہو جائے۔ یا غشی طاری ہو جائے۔ اور اسی حالت میں چھ نمازوں کا وقت گزر جائے تو اس وقت نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ہوش میں ہے۔ اور دم میں دم ہے۔ اس

وقت تک نماز معاف نہیں۔

## بیماری میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں

بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسن بیمار ہوا۔ اور اب کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ بیٹھ کر پڑھنے کی قدرت نہیں تو لیٹ کر پڑھ رہا ہے۔ ایسے موقع پر بہت سے لوگوں کو دیکھا کر وہ دل نگ کرتے رہتے ہیں۔ کہ اس حالت میں اب کھڑے ہو کر پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اور بیٹھ کر پڑھنے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے۔ لیئے لیئے نماز پڑھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کہ وضو بھی نھیک ہو رہا ہے یا نہیں۔ تم بھی صحیح ہو رہا ہے یا نہیں، ان چیزوں میں پریشان رہتے ہیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں کہ جب تم مجبوری کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں جو تندرتی کی حالت میں تم کیا کرتے تھے۔

## اپنی پسند کو چھوڑ دو

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ان اللہ یحب انت توق سخنه کما یحب انت توق عزانمه“

(مجموع الزوارہ، جلد ۳ صفحہ ۱۶۲)

یعنی جس طرح عزیمت جو اعلیٰ درجے کام ہے اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح مجبوری کی وجہ سے اگر رخصت پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند کرتے ہیں۔ لہذا اپنی پسند کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جو حالت پسند ہے۔ وہی حالت مطلوب ہے۔

## آسمانی اختیار کرنا سنت ہے

بعض لوگوں کی طبیعت سخت کوشی کی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مشقت کا کام کریں۔ بلکہ مشقت ڈھونڈتے ہیں، اس لئے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس

میں زیادہ ثواب ہے، چونکہ بست سے بزرگوں سے بھی اس قسم کی باتیں منقول ہیں۔ لہذا ان کی شان میں کوئی گستاخی کا لکھ نہیں کہنا چاہئے۔ لیکن سنت کا طریقہ نہیں۔ سنت کا طریقہ یہ ہے جو حدیث میں منقول ہے کہ

”ما خیر ماس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :بین امریف  
قط الا اخذ ایسرہما“

(صحیح بخاری، کتاب الادب، حدیث نمبر ۶۱۳۹)

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آسانی اختیار کرتا۔ مولا اللہ۔ تن آسانی کے لئے تھا؟ اور کیا مشقت اور تکلیف سے بچنے کے لئے یاد نیا وی راحت اور آرام حاصل کرنے کے لئے تھا؟ ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ تن آسانی اور راحت و آرام حاصل کرنے کے لئے آسان راست اختیار فرماتے تھے۔ لہذا اس کی وجہ وہی ہے کہ آسان راست اختیار کرنے میں عبدیت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری نہیں ہے۔ بلکہ مشکلگی ہے، میں تو عابز بندہ ہوں، ناکارہ ہوں۔ میں تو آسان راست اختیار کرتا ہوں۔ یہ بندگی کا انتہا ہے، اور اگر مشکل راست اختیار کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری جاتا ہے۔

## دین ”اتباع“ کا نام ہے

دین کی ساری بنیاد یہ ہے کہ کسی خاص عمل کا نام دین نہیں۔ کسی خاص شوق کا نام دین نہیں۔ اپنے معمولات پورے کرنے کا نام دین نہیں۔ اپنی عادت پوری کرنے کا نام دین نہیں، دین نام ہے ان کی اتباع کا۔ وہ جیسا کہیں ویسا کرنے کا نام دین ہے۔ ان کو جو چیز پسند ہے۔ اس کو اختیار کرنے کا نام دین ہے۔ اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے کا نام دین ہے۔ وہ جیسا کہ ارہے ہیں۔ وہی بستر ہے۔ یہ جو صدمہ اور حرمت ہوتی رہتی ہے کہ ہم تو بیکار ہو گئے۔ اس واسطے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ صدمہ کرنے کی بات نہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ کو

وہی پسند ہے۔ اور جب یہی پسند ہے تو اس وقت کا تقاضہ یہی ہے کہ یہ کرو۔ اور ان کو وہی عی کرنا پسند ہے۔ اگرچہ اس وقت تم کو زبردستی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پسند ہے۔ لیکن اپنی تجویز کو فتاکر دینے۔ اور اللہ جل جلالہ نے جیسا مقرر کر دیا اس پر راضی رہنے کا حام بندگی ہے۔ اپنی طرف سے تجویز کرنا کہ یوں ہوتا ہیوں کر لیتا۔ یہ کوئی بندگی نہیں۔

## اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری مت دکھاؤ

جب اللہ تعالیٰ یہ چلا رہے ہیں کہ بندہ تھوڑا سا ہائے ہائے کرے۔ تو ہائے ہائے کرو۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے پاس عیادت کے لئے گئے تو دیکھا کر وہ بزرگ بڑی سخت تکلیف میں ہیں، لیکن بجائے کچھ کراہنے کے ”اللہ اللہ“ اور ”الحمد للہ۔ الحمد للہ“ کا درد کر رہے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا: بھل! یہ تمہارا ”الحمد للہ“ کرنا براقتل مبارک باد ہے۔ لیکن یہ موقع اللہ تعالیٰ سے دعماً تکنے کا ہے کہ ”یا اللہ! مجھے عافیت عطا فرمادیجے“ اس وقت میں ”الحمد للہ“ کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھانا ہے کہ اللہ میل! آپ تو مجھے یہاں کر رہے ہیں۔ لیکن میں اتنا بہادر ہوں کہ میری زبان پر بھی آہ نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھانا یہ کوئی بندگی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکستی دکھانا بندگی ہے۔ وہ جب چلا رہے ہیں کہ بندہ تھوڑا سا ہائے ہائے کر کے پکارے۔ تو عاجز اور بے بس بن کر اللہ میل کو پکارو۔ کیسے پکارو؟ جیسے حضرت ایوب غاییہ السلام نے پکارا تھا کہ:

أَيُّ مَسْئَى الظُّرُوفَ أَنْتَ أَمْ حَكَمُ الرَّاحِمِينَ

(سورۃ الانبیاء: ۸۳)

چیزیں سے زیادہ کون بہادر ہو گا۔ اتنی زبردست یہاںی اور اتنی زبردست تکلیف، لیکن اللہ میل کو پکار رہے ہیں کہ ”مسنی الضر“ اے اللہ! مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے۔ ”وانت ارحم الرحیمین“ لذادہ جب چلا رہے ہیں کہ ان کو پکارا جائے۔ اور آدمی تھوڑا سا کراہی تو پھر کراہی میں مزہ ہے۔ وہ جیسا کہیں اسی کے کرنے میں مزہ ہے، اللہ میل کے سامنے اتنا ضبط بھی اچھا نہیں، یہ بھی بندگی کے خلاف ہے۔

## انسان کا اعلیٰ ترین مقام

یاد رکھو! انسان کا اعلیٰ ترین مقام، جس سے اوپر مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ ”عبدیت“ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف بیان فرمائے، فرمایا کہ:

إِنَّاۤ أَنَاۤ سُلْطَنٌۤ شَاهِدًاۤ وَمُبَشِّرًاۤ وَنَذِيرًاۤ

وَدَاعِيًّا إِلَىٰ اللَّهِ يَارْبِّهِ وَسِرَاجًا حَمْنِيرًاۤ

(سورۃ الاحزاب: ۳۴، ۳۵)

یعنی ہم نے آپ کو شلد، مبشر، نذری، داعی اور سراج منیر بنا کر بیجاہد کیجئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف ذکر فرمائے۔ لیکن جمل معرج کاذکر آیا، اور اپنے پاس بلانے کا ذکر فرمایا۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ”عبد“ کا لفظ ذکر کیا۔ فرمایا:

سُبْحَانَ الرَّبِّ الْأَكْبَرِ أَشْرِقَ يَعْتَدِهُ

(سورۃ بنی اسرائیل: ۱)

یعنی وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا۔ یہاں ”شدہ“ ”بشر“ اور ”سراج منیر“ کے الفاظ نہیں لائے بلکہ صرف ایک لفظ ”عبد“ لائے۔ یہ تلانے کے لئے کہ انسان کا سب سے اوپر مقام عبدیت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی، شکستگی اور عاجزی کا مقام ہے۔

### توڑنا ہے حسن کا پندرار کیا؟

ہمارے بڑے بھلی تھے محمد ذکی کیفی مرحوم۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ شعر بت اچھے کہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت اچھا شعر کہا ہے۔ لوگ اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے۔ اسی بات کو انہوں نے بڑے خوبصورت پیرائے میں کما ہے۔ کہتے ہیں کہ:-

اس تدر بھی ضبط غم اچھا نہیں

توڑنا ہے حسن کا پندرار کیا؟

(کیفیاتِ ذکری کتبی ص ۱۳۱)

یہ جو غم کو اتنا ضبط کر رہے ہو کہ منہ سے "آہ" بھی نہ نکلے "کراہ" بھی نہ نکلے۔ تو کیا تم اس کے پندار کو توڑنا چاہتے ہو۔ جو تمیں اس غم میں مبتلا کر رہا ہے؟ اس کا پندار توڑنا مقصود ہے؟ اس کے آگے بہادری دکھانا چاہتے ہو؟۔ یہ بندہ کا کام نہیں۔ بندہ کا کام تو یہ ہے کہ جب اس نے ایک تکلیف دی تو اس تکلیف کا مقابلہ یا ہے کہ اس تکلیف کے ازالے کے لئے اس کو پکارا جائے۔ اگر اس نے غم دیا ہے۔ تو اس غم کا انصار شرعی حدود میں رہ کر کیا جائے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب بچے کا انتقال ہو گیا تو فرمایا:

انَا بِفِرَاقِكُ يَا ابْرَاهِيمَ لِمَحْزُونِكُ.

"اے ابراهیم! ہم تمدنی جدائی پر بڑے غمگین ہیں"

(صحیح بن حنبل، کتاب البیان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انَا بِكُ لِمَحْزُونِكُ، حدیث ثوبہ ۱۳۰۳)

بات یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں وہی حالت پسندیدہ ہے۔ جب وہ چاہ رہے ہیں کہ لیٹ کر نماز پڑھو تو پھر لیٹ کر ہی نماز پڑھو۔ اس وقت لیٹ کر پڑھنے ہی میں وہ ثواب اور وہ اجر ہے۔ جو عام حالت میں کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے۔

## رمضان کا دن لوٹ آئے گا

ہمارے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالجعی صاحب قدس اللہ سرہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل فرماتے تھے کہ ایک شخص رمضان میں بیڈ ہو گیا۔ اور بیڈی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، اب اس کو غم ہو رہا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے دیکھو کہ تم روزہ کس کے لئے رکھ رہے ہو؟ اگر یہ روزہ اپنی ذات کے لئے رکھ رہے ہو، اپنی خوشی کے لئے اور اپنا شوق پورا کرنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو تو بے شک اس پر صدمہ کرو کہ بیڈی آگئی اور روزہ چھوٹ گیا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے روزہ رکھ رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ بیڈی میں روزہ چھوڑ دو۔ تو مقصود پھر بھی حاصل ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے۔

## لیس من البد الصیام فی السفر

(صحیح مسلمی، کتاب الصوم، باب قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لیس من البر الصوم فی السفر، حدیث  
نمبر ۱۹۳۶)

سفر کی حالت میں جب کہ شدید مشقت ہو۔ اس وقت روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ لیکن قضا کرنے کے بعد جب عام دنوں میں روزہ رکھو گے تو اس میں وہ تمام انوار و برکات حاصل ہوں گے جو رمضان کے میئے میں حاصل ہوتے تھے۔ گویا کہ اس شخص کے حق میں رمضان کا دن لوٹ آئے گا، اور رمضان کے دن روزہ رکھنے میں جو فائدہ حاصل ہوتا۔ وہ فائدہ اس دن قضا کرنے میں حاصل ہو جائے گا۔ لہذا اگر شرعی عذر کی وجہ سے روزے قضا ہو رہے ہیں۔ مثلاً یہاںی ہے سفر ہے۔ یا خواتین کی طبعی مجبوری ہے۔ اس کی وجہ سے روزے قضا ہو رہے ہیں۔ تو غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اس وقت میں روزہ چھوڑ دنا اور کھانا پینا ہی اللہ کو پسند ہے، اور لوگوں کو روزہ رکھ کر جو ثواب مل رہا ہے۔ تمہیں روزہ نہ رکھ کر ہی ثواب مل رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھوکارہ کر جو ثواب مل رہا ہے۔ تمہیں کھانا کھا کر مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی انوار و برکات عطا فرمایا رہے ہیں۔ جو عام روزہ داروں کو عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر جب بعد میں اس روزے کی قضا کرو گے تو قضا کے دن رمضان کی سلسلی برکتیں اور سلسلے انوار حاصل ہوں گے۔ گھبرا نے کی کوئی بات نہیں۔

## اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں

اور اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاںی کے اندر جو صدمہ ہو رہا ہے کہ ”روزہ“ چھوٹ گیا، اس صدمہ سے دل ٹوٹا، دل شکستہ ہوا۔ دل کی اس شکستگی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں، چاہے صدموں سے دل ٹوٹے، یا غمتوں سے ٹوٹے یا انکار سے ٹوٹے، یا خوف خدا سے ٹوٹے۔ یا فکر آخرت سے۔ کسی بھی طرح ہو۔ بس جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا موروب بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

انما عند المنسرة فلتوبهم من اجلی

میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوں

(اتلاف: ۲۹۰/۲)

(اگرچہ محدثین نے حدیث کی حیثیت سے اس کو بے اصل کہا ہے۔ لیکن جو معنی اس میں بیان کئے گئے ہیں وہ صحیح ہیں) دل پر یہ چوٹیں جو پڑتی رہتی ہیں۔ اس طرح کہ کبھی کوئی تکلیف آگئی۔ کبھی کوئی صدمہ آگیا، کبھی کوئی پریشانی آگئی۔ یہ دل کو توڑا جا رہا ہے، کیوں توڑا جا رہا ہے؟ اس کو اس لئے توڑا جا رہا ہے کہ اس کو اپنی رحمتوں اور اپنے فضل و کرم کا مورد بنا لایا جا رہا ہے۔

تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ  
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں  
(اقبال)

یہ دل، جتنا نوٹے گا، اتنا ہی آئینہ ساز یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزیز ہو گا۔  
ہمارے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالجی صاحب قدس اللہ سرہ ایک شعر نایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کو توڑتے ہیں۔ تو اس کے ذریعہ اس کو بلندیوں تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ صدے، یہ انکار یہ غم جوانان کو آتے ہیں، یہ محابات اضطراری ہوتے ہیں، جس سے انسان کے درجات میں اتنی ترقی ہوتی ہے کہ عام حالات میں اتنی ترقی نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ شعر اکثر نایا کرتے کر۔

یہ کہ کے کا ساز نے پالہ پنک دیا  
اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے  
جب یہ دل ٹوٹ ٹوٹ کر گزتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اس کی رحمتوں کا مورد  
بنتا ہے۔ ایک غزل کا شعر حضرت والا نایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے۔

بتان مل وش اجزی ہوئی منزل میں رہتے ہیں  
جسے بریاد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں  
اللہ تبدک و تعالیٰ نوٹے ہوئے دل میں تجلی فرماتے ہیں۔ اس لئے ان غموں اور صدموں سے ڈرو نہیں، یہ آنسو جو گر رہے ہیں۔ یہ دل جو ٹوٹ رہا ہے۔ یہ آہیں جو نکل رہی ہیں، اگر اللہ جل جلالہ پر ایمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی تصدیق دل میں ہے تو یہ سب چیزیں تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا رہی ہیں۔

وادی عشق بے دور و دراز است ولے  
طے شود جادہ صد سلہ بہ آہے گاہے  
(اب)

وادی عشق کا راستہ برا المباؤڑا راستہ ہے، لیکن بعض اوقات سو سال کا فاصلہ ایک آن میں طے ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس ان صد میں اور غنوں اور پریشانیوں سے گھبرا نہیں چاہئے۔

### دین تسلیم و رضا کے مساوا کچھ نہیں

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے کہ دین اپنا شوق پورا کرنے کا کام نہیں، اپنی عادت پوری کرنے کا کام دین نہیں۔ دین اس کا نام ہے کہ جس وقت جو کام کرنے کو گما جا رہا ہے وہ کریں۔ نہ کسی عمل میں کچھ رکھا ہے۔ نہ نماز میں کچھ رکھا ہے۔ نہ روزے میں کچھ رکھا ہے۔ کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا۔ جو کچھ ہے وہ ان کی رضائیں ہے۔

عشق تسلیم و رضا کے مساوا کچھ بھی نہیں  
وہ وفا سے خوش نہ ہوں تو پھر وفا کچھ بھی نہیں

(کیفیات۔ ذکر کیفی (۲۰۳)

اللہ تبدیک و تعالیٰ جس کام سے خوش ہوں۔ وہی کام کرنے کا ہے۔ اسی کام میں مزہ ہے

نہ تو ہے بھر ہی اچھا نہ دصال اچھا ہے  
یاد جس حل میں رکھے وہی حل اچھا ہے

(غلاب)

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ بات ہمارے دلوں میں پیوست فرمادے تو دین کو سمجھنے کے راستے کھل جائیں۔

### تیلداری میں معمولات کا چھوٹنا

اور یہ جو بتایا کہ یہ دی کی حالت میں اگر معمولات چھوٹ جائیں تو اس پر وہی کچھ

لکھا جا رہا ہے جو صحت کی حالت میں کرنے سے ملتا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں جس طرح اپنی بیداری داخل ہے۔ ان لوگوں کی بیداری بھی داخل ہے جن کی تجد داری اور خدمت انسان کے فرائض میں شامل ہے۔ کسی کے والدین بیدار ہو گئے۔ اب دن رات ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ان کی خدمت میں لگنے رہنے کی وجہ سے معمولات چھوٹ گئے، اب نہ تلاوت ہو رہی ہے۔ نہ نوافل ہو رہے ہیں۔ نہ ذکر ہے نہ تسبیح ہے۔ سب کچھ چھوٹا جا رہا ہے۔ اور دن رات مل باب کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس کا بھی بھی حکم ہے۔ اگرچہ خود بیدار نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو اعمال چھوٹ رہے ہیں۔ وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھے جا رہے ہیں۔ کیوں؟

### وقت کا تقاضہ دیکھو

اس لئے کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ بڑے کام کی بات فرمایا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کی زندگی درست کرنے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرماتے تھے میں! ہر وقت کا تقاضہ دیکھو۔ اس وقت کا تقاضہ کیا ہے؟ اس وقت مجھ سے مطالبہ کیا ہے؟ یہ نہ سچو کہ اس وقت میرا کس کام کو دل چلا رہا ہے۔ دل چاہنے کی بات نہیں۔ بلکہ یہ دیکھو اس وقت تقاضہ کس کام کا ہے؟ اس قضاۓ کو پورا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تم نے تو اپنے ذہن میں بھمار کھاتا ہا کہ روزانہ تجد پڑھا کروں گا، روزانہ اتنے پارے تلاوت کیا کروں گا۔ روزانہ اتنی تسبیحات پڑھا کروں گا، اب جب ان کاموں کا وقت آیا تو دل چلا رہا ہے کہ یہ کام میں پورے کروں۔ اور ذہن پر اس کام کا بوجھ ہے۔ اب یعنی وقت پر گھر میں سے بیدار ہو گئیں۔ اور اس کے نتیجے میں اس کی تجد داری، علاج اور دوا داروں میں لگنا پڑا۔ اور اس میں لگنے کی وجہ سے وہ معمول چھوٹنے لگا۔ اس وقت برا دل کر رہتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ میرا تو آج کا معمول قضاہو جائے گا۔ اس وقت تو میں بینہ کر تلاوت کرتا۔ ذکر دروازہ کار کرتا، اب ملاما پھر رہا ہوں کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، کبھی دوا خانے، یہ میں کس چکر میں پھنس گیا۔ ارسے! اللہ تعالیٰ نے جس چکر میں ڈالا، اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ کرو، اگر اس وقت وہ کام چھوٹ کر تلاوت

کرنے بینے جاؤ گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اب وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ کام کرو۔ اب اسی میں وہ ثواب ملے گا جو تلاوت کرنے میں ملتا۔ اسی میں وہ ثواب ملے گا جو تسبیحات میں ملتا۔ یہ ہے اصل دین۔

### ابن شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں

ہمارے حضرت مولانا سعی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تمیں۔ ان حضرات میں سے تھے جن کے قلب پر اللہ تعالیٰ کا نئے کی بات القافرما تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھلائی: اپنا شوق پورا کرنے کا کام دین نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کام دین ہے، اس کا کام دین نہیں کہ فلاں کام کا شوق ہو گیا۔ لہذا باب توبوی کام کریں گے۔ مثلاً علم دین پڑھنے اور علم بننے کا شوق ہو گیا۔ اس سے قطع نظر کہ تمہارے لئے عالم بننا جائز بھی ہے یا نہیں؟ گھر میں مل بیلد پڑی ہے، باب بیلد پڑا ہے۔ اور گھر میں دوسرا کوئی تبلداری کرنے والا اور ان کی دیکھ بھل کرنے والا موجود نہیں، لیکن آپ کو شوق ہو گیا کہ عالم بنیں گے، چنانچہ مل باب کو بیلد چھوڑ کر مدرسہ میں پڑھنے چلے گئے۔ یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ دین کا کام تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر مل کی خدمت کرو۔ باب کی خدمت کرو۔

### مفتی بننے کا شوق

یا مثلاً شخص پڑھنے اور مفتی صاحب بننے کا شوق ہو گیا۔ بست سے طلبہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں تخصص پڑھنے کا برا شوق ہے۔ اور ہم فتویٰ نویسی سیکھنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھا کر آپ کے والدین کا کیا نشانہ ہے؟ جواب دیا کہ والدین تو راضی نہیں ہیں۔ اب دیکھئے کہ والدین تو راضی نہیں ہیں اور یہ مفتی صاحب بننا چاہتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے۔

### تبليغ کرنے کا شوق

یا مثلاً تبلیغ کرنے اور چلے میں جانے کا شوق ہو گیا۔ دیے تبلیغ کرنا بڑی فضیلت

اور ثواب کا کام ہے، لیکن گھر میں یہوی یہار پڑی ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کو چلہ لگانے کا شوق ہو گیا، یہ دین نہیں ہے، یہ لپانا شوق پورا کرتا ہے۔ اب اس وقت دین کا تقاضہ اور وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس بیدل کی تیارواری کرو، اور اس کا خیال کرو، اور اس کا علاج کرو، یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بھی دین ہے۔

### مسجد میں جانے کا شوق

حضرت مولانا حفظ اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجلس میں اس پر یہ مثال دی کہ ایک شخص جنگل اور ویرانے میں اپنی یہوی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں۔ بس میں یہوی دونوں اکیلے رہتے ہیں۔ اب میں صاحب کو آبادی کی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اب یہوی کہتی ہے کہ یہ تو جنگل اور ویرانہ ہے۔ اگر تم نماز پڑھنے آبادی کی مسجد میں چلے گئے تو مجھے اس ویرانے میں ڈر گے گا۔ اور ڈر کے ملبے میری جان نکل جائے گی، اس لئے بجائے مسجد جانے کے آج تم یہیں نماز پڑھ لو۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ وہ میں صاحب تو تھے شوقین، چنانچہ شوق میں آکر اپنی یہوی کو وہیں جنگل میں اکیلا چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ فرمایا کہ یہ شوق پورا کرتا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس وقت کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ گھر میں نماز پڑھتا۔ اور اپنی یہوی کی یہ پریشانی دور کرتا۔

یہ اس وقت ہے جمل بالکل ذریانہ ہے۔ کوئی آبادی نہیں ہے، البتہ جمل آبادی ہو تو وہاں مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہئے۔

لہذا اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، کسی کو جماد میں جانے کا شوق۔ کس کو تبلیغ میں جانے کا شوق، کس کو مولوی بننے کا شوق۔ کسی کو مفتی بننے کا شوق اور اس شوق کو پورا کرنے کے نتیجے میں ان حقوق کا کوئی خیال نہیں جو اس پر عائد ہو رہے ہیں۔ اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ اس وقت میں ان حقوق کا تقاضہ کیا ہے؟

یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی شیخ سے تعلق قائم کرو، یہ درحقیقت اسی لئے ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس وقت کا کیا تقاضہ ہے؟ اس وقت تمہیں کونسا کام کرنا چاہئے؟ اب یہ بتیں جو اس وقت کہ رہا ہوں۔ اس کو کوئی آگے اس طرح نقل کر دے گا کہ وہ مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی بننا بری بات ہے۔ یا تبلیغ کرنا بری بات ہے۔ وہ صاحب تبلیغ

کے مخالف ہیں۔ کہ تبلیغ میں اور حلیے میں نہیں جانا چاہئے۔ یا جماد میں نہیں جانا چاہئے۔ ارے بھلی! یہ سب کام اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہیں۔ یہ دیکھو کہ کس وقت کا کیا تقاضہ ہے؟ تم سے کس وقت کیا مطالبہ ہو رہا ہے؟ اس مطالبے اور تقاضے پر عمل کرو۔ اپنے دل و دماغ سے ایک راستہ متعین کر لیا اور اس پر چل کھڑے ہوئے، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اس وقت کس بات کا حکم دے رہے ہیں؟

### سماگن وہ جسے پیا چاہے

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندی زبان کی ایک مثل بہت کثرت سے سنایا کرتے تھے۔ فرماتے کہ:

### سماگن وہ جسے پیا چاہے

قہ۔ یوں ہے کہ ایک لڑکی کو دل من بنایا جا رہا تھا۔ اور اس کا سمجھار پنڈ کیا جا رہا تھا، اب جو کوئی آتا! اس کی تعریف کرنا کہ تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تیرا چڑھ اتنا خوبصورت ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کی تعریف کی جا رہی تھی۔ لیکن وہ لڑکی ہر ایک کی تعریف سنتی، لیکن خاموش رہتی۔ اور ٹھنی آن ٹھنی کر دیتی۔ کسی خوشی کا اطمینان دن کرتی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ تیری سیلیاں تیری اتنی تعریفیں کر رہی ہیں۔ تجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ ان کی تعریف سے کیا خوشی ہو۔ اس نے کہ یہ جو کچھ تعریفیں کریں گی۔ وہ ہوا میں اڑ جائیں گی۔ بات جب ہے کہ جس کے لئے مجھے سنوارا جا رہا ہے وہ تعریف کرے۔ وہ پسند کر کے کہہ دے کہ ہاں! تو اچھی لگ رہی ہے، تب تو فائدہ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں میری زندگی سنوار جائے گی۔ لیکن اگر یہ عورتیں تو تعریف کر کے چل گئیں اور جس کے لئے مجھے سنوارا گیا تھا۔ اس نے ناپسند کر دیا تو پھر اس دلمن بننے اور اس سمجھار پنڈ کا کیا فائدہ؟

### بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے

یہ قصہ سنانے کے بعد حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ جو کام تم کر رہے ہو۔ جس کے لئے کر رہے ہو اس کو پسند ہے یا نہیں؟ لوگوں نے تو تعریف کر دی

کہ بڑے مفتی صاحب ہیں۔ بڑے عالم اور بڑے مولانا صاحب ہیں۔ لوگوں نے تعریف کر دی کہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ مجدد اعظم ہے۔ ارے ان لوگوں کے کہنے سے کیا حاصل! جس کے لئے کرو ہے ہودہ یہ کہہ دے کہ۔

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے  
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے  
(ظفر علی خان)

اس وقت فائدہ ہے۔ لہذا جب ہر کام کا مقصد ان کو راضی کرنا ہے تو پھر ہر وقت انسان کو یہ فکر رہنی چاہئے کہ اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے؟

### اذان کے وقت ذکر چھوڑ دو

اپنے خاصے ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ لیکن جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑی، حکم آیا کہ ذکر چھوڑ دو۔ اور خاموش ہو کر منڈن کی آواز سنو۔ اور اس کا جواب دو۔ اگرچہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اذان کے وقت اگر ذکر کرتے رہتے تو کئی تسبیحات اور پڑھ لیتے۔ مگر ذکر سے روک دیا گیا۔ جب روک دیا تو اب رک جاؤ۔ اب ذکر میں فائدہ نہیں۔ اب آذان سننے اور اس کا جواب دینے میں فائدہ ہے۔

### جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑی عجیب و غریب عبادت بنالی ہے۔ اگر آپ جو کی عاشقانہ عبادات کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر قاعدوں کے بت توڑے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن آٹھ ذی الحجه کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مسجد حرام چھوڑو۔ اور منی میں جا کر پڑاؤ ڈالو۔ وہاں نہ حرم، نہ کعبہ، اور نہ وہاں پر کوئی کام، نہ وقوف ہے۔ نہ رتگ اجمرات ہے۔ بس یہ حکم دے دیا کہ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑو۔ اور منی کے جنگل میں جا کر پانچ نمازوں ادا کرو، یہ سب کیوں ہے؟ اس لئے کہ

یہ بتاتا مقصود ہے کہ نہ اس کعبہ میں کچھ رکھا ہے اور نہ حرام میں کچھ رکھا ہے۔ نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہے۔ جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھو، تو اب ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور جب ہم نے کہ دیا کہ مسجد حرام کو چھوڑو۔ اب اگر کوئی شخص مسجد حرام میں نماز پڑھے گا تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب تو کیا ملے گا۔ بلکہ الثانگناہ ہو گا۔ اس لئے کہ اس نے ہمارے حکم کو توز دیا۔

## نماز اپنی ذات میں مقصود نہیں

قرآن و سنت میں نماز وقت پر پڑھنے کی بست تأکیدوار ہے۔ فرمایا کہ:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى مَوْقِعَتُهَا

(سورۃ النساء ۱۰۳)

نماز کو وقت کے ساتھ پابند کیا گیا ہے۔ وقت گزرنے سے پہلے نماز پڑھ لو۔ مغرب کی نماز کے بارے میں حکم دے دیا کہ تعجیل کرو۔ جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لو۔ تاخیر نہ ہو۔ لیکن عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز جلدی پڑھو گے تو نماز ہی نہ ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت عرفات کے میدان سے نکل رہے ہیں۔ اور حضرت بالا رضی اللہ عنہ بادر فرمारہے ہیں کہ "الصلوة یا رسول اللہ" "الصلوة یا رسول اللہ" اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ "الصلوة اماک" (نماز تمہارے آگے ہے) سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ اس مغرب کے وقت میں کچھ رکھا ہے۔ ارے بھائی! جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ جب ہم نے کہا کہ جلدی پڑھو تو جلدی پڑھنا باعث ثواب تھا۔ اور جب ہم نے کہا کہ مغرب کا یہ وقت گزار دو۔ اور مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھو، تو اب تمہارے ذمے وہی فرض ہے۔ حج میں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قaudooں کے بت توڑے ہیں، عصر کی نماز میں تشریم کرادی، اور مغربی میں تاخیر کرادی۔ ہر کام الثانگرا جا رہا ہے۔ اور تریتیت اس بات کی دی جارہی ہے کہ کسی چیز کو اپنی ذات میں مقصود نہ سمجھنا۔ نہ نماز اپنی ذات میں مقصود ہے۔ نہ روزہ اپنی ذات میں مقصود ہے۔ نہ کوئی اور

عبدات اپنی ذات میں مقصود ہے۔ مقصود اللہ جل جلالہ کی اطاعت ہے۔

### افظل میں جلدی کیوں؟

یہ تو حکم دیا گیا کہ افظل میں جلدی کرو۔ اور بلاوجہ افظل میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اب تک تو بھوکارہنا اور نہ کھانا باعث ثواب تھا۔ پاسارہنا باعث ثواب تھا، اس کی بڑی فضیلت اور براہم جو ثواب تھا۔ لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ کھانا باعث میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ اس لئے کہ اب اگر کھانے میں تاخیر کرو گے تو اپنی طرف سے روزے میں اضافہ کرنا لازم آئے گا۔

### حری میں تاخیر کیوں؟

حری میں تاخیر افضل ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے سے حری کھا کر سو جائے۔ تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ عین وقت پر جب حری کا وقت ختم ہو رہا ہو۔ اس وقت کھانا افضل ہے۔ کیوں؟ اس لئے اگر پہلے سے کوئی شخص حری کھا کر سو گیا تو اس نے اپنی طرف سے روزے کی مقدار میں اضافہ کر دیا۔ وہ اتباع میں نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ سلسلی بات ان کی اتباع میں ہے۔ ہم ان کے بندے ہیں۔ اور بندے کے معنی یہ ہیں کہ جو کہیں وہ کرو۔

### ”بندہ“ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا

حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھلی! ایک ہوتا ہے ”ملازم“ اور ”نونکر“، ملازم اور نونکر خاص وقت اور خاص ڈیوٹی کا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک ملازم کا کام صرف چھاڑو دینا ہے۔ کوئی دوسرا کام اس کے ذمے نہیں۔ یا ایک ملازم آٹھ سکھنے کا ملازم ہے۔ آٹھ سکھنے کے بعد اس کی چھٹی۔ اور ایک ہوتا ہے ”غلام“ جو نہ وقت کا ہوتا ہے اور نہ ڈیوٹی کا ہوتا ہے۔ وہ تو حکم کا ہے۔ اگر آتا اس سے کے کہ تم یہاں تااضی اور جن کر بیٹھ جاؤ۔ اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ تو وہ

قاضی بن کر فیصلے کرے گا۔ اور اگر آقا اس سے کہہ دے کے پانچھ انحصار تو وہ پانچھ انحصار ہے گا۔ اس کے لئے نہ وقت کی قید ہے اور نہ کام کی قید، بلکہ آقا جیسا کہہ دے غلام کو ویسا ہی کرنا ہو گا۔

”غلام“ سے آگے بھی ایک درجہ اور ہے۔ وہ ہے ”بندہ“ وہ غلام سے بھی آگے ہے۔ اس لئے کہ ”غلام“ کم از کم اپنے آقا کی پرستش تو نہیں کرتا ہے۔ لیکن ”بندہ“ اپنے آقا کی عبادت اور پرستش بھی کرتا ہے۔ اور ”بندہ“ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے آقا کی مرضی کا ہوتا ہے۔ وہ جو کے وہ کرے، دین کی روح اور حقیقت یہی ہے۔

**بتاؤ! یہ کام کیوں کر رہے ہو؟**

میں نے صبح سے شام تک کا ایک نظام بنا رکھا ہے کہ اس وقت تصنیف کرنی ہے۔ اس وقت درس دینا ہے۔ اس وقت فلاں کام کرنا ہے۔ تصنیف کے وقت جب تصنیف کرنے بیٹھے، مطالعہ کیا۔ اور ابھی ذہن کو لکھنے کے لئے تیار کیا۔ اور قلم اندازیا تھا یہ سون کریوں لکھتا چاہئے کہ اتنے میں ایک صاحب آگئے۔ اور آگر ”السلام علیکم“ کہا اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیئے۔ اب اس وقت بڑا دل کرھتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ایسے وقت آگیا، بڑی مشکل سے ابھی تو کتابیں دیکھ کر لکھنے کے لئے ذہن بنا یا تھا۔ اور یہ صاحب آگئے۔ اور اس کے ساتھ پانچ دس منٹ باتیں کیں، اتنے میں جو کچھ ذہن میں آیا تھا۔ وہ سب نکل گیا۔ اب اس کو از سر نو زہن میں جمع کیا۔ اس طرح صبح سے شام تک یہ دھنہ ہوتا رہتا ہے۔ ایسی وقت میں بڑی کڑھن ہوتی تھی کہ ہم نے سوچا تھا کہ اس وقت میں اتنا کام ہو جائے گا۔ دو تین صفحے لکھ لیں گے۔ لیکن صرف چند سطروں سے زیادہ کام نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالعزیز صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ فرماتے تھے کہ میں! یہ بتاؤ کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تصنیف، یہ تدریس، یہ فتویٰ کس کے لئے ہے؟ کیا یہ سب اس لئے ہے کہ تمدنی سوالیں جیلت میں لکھا جائے کہ اتنے ہزار صفحات تصنیف کر گیا۔ اور اتنی بہت سی تصنیف اور کتابیں لکھیں۔ یا اتنے بہت شاگرد پیدا کر دیئے۔ اگر یہ سب کام اس لئے کر رہے ہو تو بے شک اس پر افسوس کرو کہ اس شخص کی ملاقات کی وجہ سے حرج ہوا۔ اور تعداد میں اتنی

کی ہو گئی۔ جتنے صفحات لکھنے چاہئے تھے۔ اتنے نہ لکھئے، جتنے شاگردوں کو پڑھانا چاہئے تھا۔ انہوں کو وہ پڑھایا، اس پر افسوس کرو۔ لیکن یہ سچو کہ اس کا حاصل کیا ہے؟ مخفی لوگوں کی طرف سے تعریف، توصیف، شہرت، پھر تو یہ سب کام اکارت ہے۔ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے یہاں اس کی ایک دھیلے قیمت نہیں، اور اگر مقصود ان کی رضا ہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ یہ قلم اس لئے ہل رہا ہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ ان کے یہاں یہ عمل مقبول ہو جائے۔ تو جب مقصود ان کی رضا ہے۔ وہ قلم ہے، یا نہ ہے، وہ قلم ہٹنے سے راضی ہوں تو قلم ہلانا بہتر ہے، اگر قلم نہ ہٹنے سے راضی ہو جائیں تو وہی بستر ہے بس دیکھو کہ وقت کا تقاضہ کیا ہے۔ تم نے بے شک اپنے ذہن میں یہ منصوبہ بنایا تھا کہ آج دو صفحے ہو جانے چاہیں۔ لیکن وقت کا تقاضہ یہ ہوا کہ ایک ضرورت مند آگیا۔ وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ کوئی اپنی ضرورت لے کر آیا ہے۔ اس کا بھی حق ہے۔ اس کا حق ادا کرو۔ اب وہ اس کا حق ادا کرنے میں راضی ہیں۔ اس سے بات کرنے میں۔ اس کو مسئلہ ہنانے میں وہ راضی ہیں۔ تو پھر گھبرا نے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا یہ معمول رہ گیا، اب تمہاری تصنیف میں اتنا ثواب نہیں، جتنا اس شخص کی حاجت پوری کرنے میں ثواب ہے۔ بس! یہ دیکھو کہ وقت کا تقاضہ کیا ہے؟ جس وقت کا جو تقاضہ ہو۔ اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ ہے دین کی فہم اور سمجھ کہ اپنی طرف سے کوئی تجویز نہیں، ہربات اُن کے حوالے ہے۔ وہ جیسا کراہ ہے ہیں۔ انسان ویسا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اسی میں راضی ہیں۔ ہر چیز میں یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے۔ اس کے مطابق عمل کرو یہدی ہو تو، سفر ہو تو، حضر ہو تو، صحت ہو تو، ہر حالت میں ان کی رضا کی نکر کرو۔ اس لئے یہ نہیں سچتا چاہئے کہ ہم نے منصوبے بنائے تھے۔ وہ منصوبے ٹوٹ گئے۔ ارے وہ منصوبے تو تھے ہی ٹوٹنے کے لئے۔ انہن کیا؟ اور اس کا منصوبہ کیا؟ منصوبہ تو انہیں کا چلتا ہے۔ کسی کا منصوبہ نہیں چلتا۔ جب یہدی آئے گی تو منصوبہ ٹوٹے گا۔ سفر آئے گا تو منصوبہ ٹوٹے گا۔ جب غوارض پیش آئیں گے تو منصوبہ ٹوٹے گا۔ منصوبوں کے یچھے مت چلو۔ ان کی رضا کو دیکھو۔ انشاء اللہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔

## حضرت اولیس قریٰ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت اولیس قریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ملا۔ کون مسلمان ایسا ہو گا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کی خواہش نہ ہو۔ خواہش تو کیا؟ ترتیب نہ ہو۔ جب کہ دیدار ہو بھی سکتا ہو۔ آپ کے عمد مبدک میں موجود بھی ہو۔ لیکن سرکار کی طرف سے حکم یہ ہو گیا کہ تمہیں دیدار نہیں کرنا۔ تمہیں اپنی مل کی خدمت کرنی ہے۔ اب مل کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چھوڑا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان کو یہ فرمایا یا کہ فائدہ اس میں ہے کہ ہمارا حکم نہ ہو، ہمارا حکم یہ ہے کہ مدینہ نہ جلو۔ ہمارا حکم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو۔ حضور کی زیارت نہ کرو۔ بلکہ حضور کی کمی ہوئی بات پر عمل کرو، اب مل کی خدمت کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا۔ اور دیدار سے محروم رہے تو جو لوگ دیدار سے بہرہ ور ہوئے تھے۔ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تھا یعنی صحابہ کرام، وہ آآکر حضرت اولیس قریٰ سے دعائیں کراتے تھے کہ خدا کے واسطے ہمارے لئے دعا کر دو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فلوق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ وہاں قرن میں میرا ایک امتی ہے۔ جس نے میرے حکم کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر میرے دیدار کو قربان کیا ہے، اے عمر! وہ جب کبھی مدینہ آئیں تو جا کر ان سے اپنے حق میں دعا کرنا، اگر کوئی شوقیں ہوتا تو کہتا کہ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق ہے۔ اور یہ دیکھے بغیر کہ میری مال نیپلے ہے، اور اس کو میری خدمت کی حاجت ہے۔ دیدار کے شوق میں چل کھڑا ہوتا، کیوں؟ صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لئے۔ لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ لہذا جو آپ نے فرمایا ہو کرتے ہیں۔ میرا شوق کچھ نہیں۔ میری تجویز کچھ نہیں۔ میری رائے کچھ نہیں۔ بلکہ جوانیوں نے فرمایا، وہی برحق ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب افضائل۔ باب من فضائل اولیس قریٰ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر ۲۵۲۲)

## تمام بدعات کی جڑیہ ہے

اور یہ سادی بدعتیں جتنی رائج ہیں۔ ان سب کی جزیم سے کنتی ہے۔ اگر یہ فہم دل میں پیدا ہو جائے کہ ہمارا شوق کچھ نہیں۔ وہ جو حکم دیں۔ اس پر عمل کرنا ہے۔ بدعت کے معنی کیا ہیں؟ بدعت کے معنی یہ ہیں کہ ہم خود راستہ نکالیں گے کہ اللہ کو راضی کرنے کا کیا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھیں گے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ ۱۲ ربيع الاول کو عیدِ میلاد النبی منانا اور میلاد پڑھنا یہ صحیح طریقہ ہے، اپنے دماغ سے یہ راستہ نکلا۔ اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ بلکہ ہم نے اپنے دماغ سے نکل دیا کہ یہ طریقہ موجب ثواب ہے، کسی کے مرنے کے بعد اس کا تیج کرنا اپنے دماغ سے نکل لیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پوچھئے بغیر اس پر چل کھڑا ہوا، اسی کا نام بدعت ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا:

### کل محدث بدعوة وكل بدعوة ضلالة

(سن نسل، کتاب صلاۃ العیدین۔ باب کیف الخطبة، حدیث نمبر ۱۵۷۸)

یعنی ہر بدعت گراہی ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں تجوہ ایک اچھا عمل ہے کہ بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ کھاتا پاکار لوگوں میں تقیم کر رہے ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ اور اس میں کیا گناہ ہیں؟ گناہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پوچھئے بغیر کیا ہے۔ اور جو کام بظاہر نیک ہو۔ لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کیا جائے۔ وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔

میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ  
جو ترے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

(کیفیت۔ ذکی کیفی مص ۲۸)

یعنی جو چیز بظاہر و فادری نظر آرہی ہے۔ لیکن حقیقت میں ترے دل کی کدورت کا سبب بن رہی ہے۔ ایسی وفاداری سے توبہ مانگتا ہوں۔ اور اسی کا نام بدعت ہے۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھیں، بس! اسی حال میں خوش رہو۔ اور اس کا تقاضہ پورا کرو۔

اپنا معاملہ اللہ میاں پر چھوڑ دو

مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی کہ:

چونکہ بر میخت بیند بستہ باش

چوں کثاید چلک و برجتہ باش

وہ اگر تمیں ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیں تو بندھے پڑے رہو۔ اور جب کھول دیں تو پھر چھلانگیں لگو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تلقین فرمایا ہے ہیں کہ یہ دلی کی وجہ سے گھبرا دنیں، رخصت پر عمل کرنا بھی برا اٹواب کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بست پسند ہے کہ میرے بندے نے میری دی ہوئی رخصت پر عمل کیا۔ اور اس رخصت کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں امدادے۔ آمین

### شکر کی اہمیت اور اس کا طریقہ

اس بلب کی آخری حدیث ہے۔

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضی

عن العبد ان یاکل الاكلة فیحمدہ علیها او یشرب الشربة فیحمدہ علیها۔

(صحیح مسلم، کتاب الذکر و الدعاء، باب استجواب حمد اللہ تعالیٰ بعد الاكل والشرب، حدیث نمبر

(۲۰۳۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بست پسند فرماتے ہیں اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں جو بندہ کوئی لقمہ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پانی کا کوئی گھونٹ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر فتحت پر کثرت سے شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔

یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں کہ شکر سو عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ اور ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سره فرمایا کرتے تھے کہ کہاں کرو گے

محلہات اور ریاضتیں۔ اور کمال وہ مشقتیں اٹھاؤ گے جیسی صوفیا اکرام نے اٹھائیں؟ لیکن یہ ایک چنکلا اختیار کر لو کہ ہر یات پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لو۔ کھانا کھاؤ تو شکر، پانی پیو تو شکر، ہوا طبلے تو شکر، پچ سانسے آئے۔ اچھا لگے تو شکر۔ گمر والوں کو دیکھو۔ اور دیکھ راحت ہو تو شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، اور رث لھو "الحمد لله" اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، ياد رحوك يه شکر کی عادت ایسی جیز ہے کہ یہ بست سلے امراض بالہنی کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ یہ تکبیر، یہ حمد، یہ عجب ان سب کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ جو آدمی کثرت سے شکر ادا کرتا ہے۔ وہ عام طور سے تکبیر میں جتنا نہیں ہوتا۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے۔ بلکہ اس پر نفس وارد ہے۔

### شیطان کا بنیادی داؤ۔۔۔ ناشکری پیدا کرنا

جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ در گاہ کیا۔ اور نکال دیا۔ تو کم بخت نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ مجھے سلی عمر کی مہلت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اس نے کہا کہ اب میں تیرے بندوں کو گراہ کروں گا۔ اور ان کو گراہ کرنے کے لئے دائیں طرف سے آؤں گا۔ بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا۔ پیچھے سے آؤں گا۔ چدوں طرف سے ان پر حملے کروں گا، اور ان کو تیرے راستے سے بھنکلوں گا۔ اور آخر میں اس نے کہا کہ :

وَلَا خَيْدَ أَكْثَرُهُمْ سَابِكِينَ

(سورہ الاعران: ۷۱)

یعنی میرے بہکانے کے تیجے میں آپ اپنے بندوں میں سے اکثر کو ناشکر پائیں

کے

### شیطانی داؤ کا توز۔۔۔ اداء شکر

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا جو بنیادی داؤ ہے۔ وہ ہے ناشکری پیدا کرنا۔ اگر ناشکری پیدا ہو گئی تو معلوم نہیں کہتے امراض میں جتنا ہو گیا، اور اس داؤ کا توز شکر کرتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اتنا

ہی شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو گے۔ اس لئے روحاں یہاں پر سے بچنے کا سورش ترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دن رات صبح شام رث لگو تو ”اللهم لک الحمد و لک الشکر“ اس سے انشاء اللہ شیطان کے حملوں کا بد باب ہو جائے گا۔

### پانی خوب ٹھنڈا پایا کرو

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی قدس اللہ سره فرمایا کرتے تھے کہ میں اشرف علی! جب پانی پیو تو خوب ٹھنڈا اپیو۔ ماکہ روئیں روئیں سے اللہ تعالیٰ کا شکر نکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ مجھے دنیا کی تین چیزوں پسند ہیں۔ ان میں سے ایک ٹھنڈا پانی ہے۔ اور کسی کھانے پینے کی چیز کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی خاص چیز کہیں سے منگوائی جا رہی ہے۔ لیکن سرف ٹھنڈا پانی تھا جو سر کار دو عالم کے لئے تین میل کے فاصلے سے آیا کرتا تھا۔ بیڑ غرس نامی کنوں جواب بھی نہیں طیبہ میں موجود ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص طور پر ٹھنڈا پانی منگوایا جاتا تھا۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی پیا جائے گا تو روئیں روئیں سے شکر نکلے گا۔

### سونے سے پہلے نعمتوں کا استحضار اور ان پر شکر

اور رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کر سدی نعمتوں کا استحضار کرلو۔ کہ گھر عافیت کا ہے۔ الحمد للہ۔ بستر آرام وہ ہے۔ اللهم لک الحمد و لک الشکر۔ میں عافیت سے بوس۔ اللهم لک الحمد و لک الشکر۔ بچہ عافیت سے ہے۔ اللهم لک الحمد و لک الشکر۔ ایک ایک نعمت کا استحضار کر کے رث لگاؤ۔

حضرت ذاکر عبد الحی صاحب قدس اللہ سره فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ چیز اپنے ہاتا سے سمجھی ہے۔ ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا تو رات کو میں نے دیکھا کہ وہ سونے سے پہلے بستر بیٹھنے ہوئے ہیں، اور بد بار، بد بار اللهم لک الحمد و لک الشکر۔

اللهم لك الحمد و لك الشكر۔ پڑھ رہے ہیں۔ اور عجیب کیفیت میں یہ عمل کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت! یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمائے گئے: بھل! سارے دن تو معلوم نہیں کس حالت میں رہتا ہوں۔ اور یہ پتہ نہیں لگتا کہ شکر ادا ہو رہا ہے یا نہیں، اس وقت بیٹھ کر دن بھر کی ساری نعمتوں کا استحضار کرتا ہوں، اور پھر ہر نعمت پر "اللهم لك الحمد و لك الشكر" کہتا جاتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب" فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو اس کے بعد الحمد للہ میں نے بھی اس کو اپنے معقول میں شامل کر لیا، کہ رات کو سوتے وقت سب نعمتوں کا استحضار کر کے شکر ادا کرتا ہوں۔

### شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں۔ آپ نے ہر چیز کے طریقے بتا دیئے ہیں۔ کمال تک انسان شکر ادا کرے گا۔ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ ایک سانس پر دو شکر واجب ہیں۔ سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے توموت، اور اگر سانس باہر آئے پھر اندر نہ جائے توموت، تو ایک سانس پر دو نعمتیں، اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ اس طرح ہر سانس پر دو شکر واجب ہو گئے۔ اس لئے اگر انسان سانس ہی کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو کمال تک کرے گا " وَإِن تَعْدُوا نَعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا " اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنے کا ایک انسان طریقہ بتادیا اور چند کلمات تلقین فرمادیئے۔ ہر مسلمان کو یاد کر لینے چاہیں۔ فرمایا کہ:

"اللهم لك الحمد حمدًا ادائنا مع دوامك، و خالد مع خلودك، و لك الحمد حمدًا لامتهى له دون مشيتك، و لك الحمد حمد الایرييد قائله الا رضاك"؛

(کنز العمال، ج ۲ ص ۲۲۳، حدیث نمبر ۳۸۵)

"اے اللہ! آپ کا شکر ہے۔ ایسا شکر کہ جب تک آپ ہیں۔ اس وقت تک وہ شکر جلدی رہے، اور جس طرح آپ جاؤ داں ہیں۔ اسی طرح وہ شکر بھی جاؤ داں رہے۔ اور آپ کی مشیت کے آگے جس کی کوئی انتہاء ہو۔ اور آپ کی ایسی حمد کرتا

ہوں۔ جس کے کہنے والے کو سوائے آپ کی رضا کے کچھ اور مطلوب نہیں۔ ”  
اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

اللَّهُمَّ لِكَ الْحَمْدُ زِنَةُ عِرْشِكَ، وَمَدَادُ كَلْمَاتِكَ - وَعَدْ خَلْقَكَ، وَرَضَا فَسْكَ

(ابو داؤد، کتاب الصلاۃ، باب اسْتِبْغَانَ بِالْخَفْيِ)

فرمایا: میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے۔ اور اتنا شکر  
ادا کرتا ہوں جتنی آپ کے کلمات کی سیاہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کوئی شخص  
اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کو لکھتا چاہے، اور ساروں کے ساتوں سندراں کے لئے سیاہی بن  
جائیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے جائیں تو سارے سندر خشک ہو جائیں۔ لیکن  
اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہو۔ تو آپ کے کلمات لکھنے کے لئے جتنی سیاہی در کار ہو سکتی  
ہے۔ اس کے بقدر شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جتنی آپ کی مخلوقات ہیں۔ یعنی انسان،  
جانور، درخت، پتھر، جمادات، بیات اس سب جتنی مقدار میں ہیں۔ اس کے برابر شکر ادا  
کرتا ہوں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اتنا شکر ادا کرتا ہوں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔  
اب اس سے زیادہ انسان اور کیا کہہ سکتا ہے لذارات کو سوتے وقت ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کا  
شکر ادا کرنا چاہئے۔ اور یہ کلمات کہہ لینے چاہیں۔

اللَّهُمَّ لِكَ الْحَمْدُ مَلِيًّا عِنْدَ طِرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ - وَ تَنْفُسَ نَفْسٍ

(کنز العمال، ج ۲ ص ۲۲۳ - حدیث نمبر ۳۸۵۷)

اے اللہ! آپ کی تعریف اور آپ کا شکر ہے ہر آنکھ جھکنے کے وقت اور ہر  
سانس لینے کے وقت۔ بہرحال! یہ شکر کے کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
تلقین فرمائے ہیں، یاد کر لینے چاہیں۔ اور رات کو سوتے وقت ان کلمات کو پڑھ لینا  
چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوا اے  
ان الحمد لله رب العالمين۔

# بدعہت

ایک شنگین گناہ

جشنِ مولانا محمد تقی عثمانی مظلہم العالی



مشیط و ترتیب  
محمد عبید اللہ علیمن

میجن اسلامک پبلیشورز

۱۸۸۱ء۔ یاتھ بادا، کراچی

بدلت کر سبے بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی خود دین کا موجہ بن جاتا ہے  
 حالانکہ دین کا موجہ صرف ائمہ تعالیٰ ہے اور بدعت کرنے والا در پدھر  
 اس بات کا ذکر ہی کرتا ہے کہ جو میں کہوں وہ دین سے ائمہ اور ائمہ  
 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کو جانتا ہوں اور صحابہؓ  
 سے بڑھ کر میں دیندار ہوں۔ یہ شرعیت کی اتباع نہیں ہے بلکہ  
 اپنی خواہش نفس کی اتباع ہے

# بِدْعَتٍ اِيک سنگین گناہ

الحمد لله خمده وستعييه وستغفر له ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعود بالله  
من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدى الله فلامضل له ومن يضلله  
فلا هادى له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا  
محمد اعبدة ورسوله.

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب  
احمرت عيناه وعلاصيته واستعد غضبه حتى كان منذر جيش - يقول صبحكم ومساكه  
ويقول: بعثت انا والاساعة كهاتين، ويقرن بين اصبعيه السبابية والوسطي، ويقول اما بعد:  
فان خيرا الحديث - كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، و  
شر الامور محدثتها، وكل بدعة ضلاله، ثم يقول: انا اولى بكل مؤمن من نفسه من  
ترك مالاً فلائله، ومن ترك دينًا او ضياعًا فالي وعلى -

(صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة - حدیث نمبر ۸۶)

## لفظ "جابر" اور "جدار" کے معنی

یہ حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ کرام میں سے ہیں، اور انصاری صحابی ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، ان کا نام "جابر" ہے، بعض لوگوں کو شہر ہوتا ہے کہ "جدار" تو ظالم آدمی کو کہتے ہیں، تو پھر ان صحابی کا نام "جابر" کیسے رکھ دیا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ کے نام گرامی "جد" کے بارے میں بھی یہی شبہ ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے اس احاسنی میں سے ایک نام "جد" بھی ہے، اور اردو میں "جدار" کے معنی ہیں بست ظلم کرنے والا، اس لئے عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے "جدار" کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں "جابر" کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں ہیں، اردو میں "جدار" کے معنی ظالم کے آتے ہیں، لیکن عربی میں "جابر" کہتے ہیں ٹوپی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، ٹوپی ہڈی جوڑنے کو "جبر" کہتے ہیں، اور جو شخص ٹوپی ہڈی کو جوڑے اس کو "جابر" کہتے ہیں تو "جابر" کے معنی ہوئے ٹوپی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، اور یہ کوئی غلط معنی نہیں ہیں، بلکہ بست اچھے معنی ہیں۔ اسی طرح "جدار" کے معنی ہوئے بست زیادہ ٹوپی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا، تو اللہ تعالیٰ کا جو نام "جدار" ہے، اس کے معنی معاذ اللہ۔ ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جوڑنے والے ہیں۔

## ٹوپی ہڈی جوڑنے والی ذات صرف ایک ہے

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بست ہی دعائیں تلقین فرمائی ہیں، ان میں سے ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکارا گیا ہے کہ:

"یا جابر العظیم الکسیر"

اے ٹوپی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے

(الْحَرْبُ الْعَظِيمُ مَلَأَ عَلَىٰ قَدْرِي، ص ۲۲۳)

اس نام سے خاص طور پر اس لئے پکارا کہ دنیا کے تمام الملا، معانع اور ڈاکٹر اس

بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے، انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح پوزیشن پر رکھ دے، لیکن کوئی مرہم کوئی لوشن، کوئی دوا، کوئی مجون ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہڈی پر لگادی جائے اور وہ جڑ جائے، جوڑ نے والی ذات تو صرف وہی ہے، اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو "جبار" کہا جاتا ہے، نہ کہ اس معنی میں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔

### لفظ "قہار" کے معنی

اسی طرح باری تعالیٰ کے اسما حسنی میں ایک نام "قہار" ہے، اردو کی اصطلاح میں "قہار" اس کو کہتے ہیں جو لوگوں پر بہت قبر کرے، غصہ کرے، اور لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائے، لیکن باری تعالیٰ کے اسما حسنی میں جو لفظ "قہار" ہے وہ عربی زبان والا تقدیر ہے، اردو زبان کا نہیں ہے، اور عربی زبان میں "قہار" کے معنی ہیں غلبہ پانے والا، غالب، جو ہر چیز پر غالب ہو، اس کو "قہار" کہتے ہیں، یعنی وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے، اور وہ سب پر غالب ہے۔

### اللہ تعالیٰ کا کوئی نام عذاب پر دلالت نہیں کرتا

بلکہ باری تعالیٰ کے اسما حسنی میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو، سہل سے اسما حسنی یا رحمت پر دلالت کرتے ہیں، یا ربویت پر دلالت کرتے ہیں، یا قدرت پر دلالت کرتے ہیں لیکن۔ جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اسما حسنی میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرنے والا ہو، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبدیل و تعالیٰ کی اصل صفت رحمت کی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمن ہے، وہ کریم ہے، ہاں بیجب بندے حد سے گزر جائیں تو پھر بے شک اس کا غصب بھی بازل ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی برحق ہے جیسا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے لیکن باری تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور جو اسما حسنی سے موسم ہیں، ان میں عذاب کا ذکر صراحة موجود نہیں ہے۔

## خطبہ کے وقت آپ کی کیفیت

بهر جل: حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:  
 "کان مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اخطب احمد رت عینہ  
 وعلاصوته، واشتد غضبه"

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرماتے تھے تو بکثرت آپؐ کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، اور آواز بلند ہو جاتی تھی، یہ اس لئے ہوتا تھا کہ جو بات کہتے تھے وہ دل کی آواز تھی، اور دل میں یہ جذبہ تھا کہ کسی طرح سننے والے کے دل میں اتر جائے، اور اس کو سمجھ لے، اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اس جذبہ کے تحت کبھی کبھی آپؐ کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتیں، اور آپؐ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپؐ کا جوش زیادہ ہو جاتا تھا،

## آپ کا انداز تبلیغ

حتیٰ کانہ منذر جیش یقول صبحکم و مساکم

بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ آپؐ لوگوں کو کسی آنے والے لشکر سے ڈار ہے ہیں کہ بھائی تمہارے اوپر دشمن کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، خدا کے لئے اس سے بچنے کا کوئی سلام کرو، اور یہ فرماتے تھے کہ وہ لشکر صبح پہنچایا شام پہنچا، یعنی وہ لشکر عصریہ پہنچنے والا ہے، اس کے پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں ہے، لہذا تم اس لشکر سے بچاؤ کا سلام کرو۔

اس لشکر سے مراد ہے قیامت کا دن اور حساب و کتاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دی، اور اس جواب دی کے نتیجے میں عذاب جنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس سے ڈراتے تھے کہ یہ وقت صبح یا شام کسی بھی وقت آسکتا ہے، اس سے ڈرو، اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔

آپؐ حضرات نے سنا ہو گا کہ سب سے پہلے جب آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جل صفا پر چڑھ کر دین کی دعوت دی، جتنے خاندان مکہ میں تھے، ان سب کا نام لے کر پکارا، اور ان کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ

کے پچھے ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے، اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد! ہم آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے، اس لئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ "صادرق" اور "امین" کی حیثیت سے مشور ہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بست سخت عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس عذاب سے اگر پنجا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاو۔

(صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب (اندر عشر تک الاقریئن۔ حدیث نمبر ۲۷۰)

### اہل عرب کا مانوس عنوان

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ تصور بکثرت پایا جاتا ہے کہ "میں تم کو دشمن کے لشکر سے ڈرانے والا ہوں جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔" ڈرانے کے لئے یہ تعبیر اور یہ عنوان لعل عرب کے لئے برا مانوس تھا۔ کیونکہ عرب لوگ آپس میں ہر وقت لڑتے بھجوڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ کر رہا ہے، دوسرا تیسرے پر حملہ کر رہا ہے، دن رات یہی سلسلہ رہتا تھا جو شخص ان کو آگر یہ بتادے کہ فلاں دشمن تمہاری گھمات میں ہے، اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، وہ خبر دینے والا براہمداد سمجھا جاتا تھا، آخر ضرر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تم کو کوئی شخص دشمن کے لشکر سے باخبر کرتا ہے، ایسے ہی میں تم کو باخبر کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ عذاب صحیح پہنچا یا شام۔

### آپ کی بعثت اور قرب قیامت

پھر آگے فرمایا:

"بعثت انما وال ساعة کھاتین و یقرن بین اصعبیه السبابیة"

والوسطی:

میں اور قیامت اس طرح بیجیے گے ہیں جیسے شہادت کی انگلی اور نیچ کی انگلی اور

دونوں انگلیں انھا کر آپ نے فرمایا کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، بلکہ دونوں ملی ملی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، وہ قیامت بت جلد آنے والی ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان کو انیما علیم الصلاة والسلام لوگوں کو قیامت سے ڈراستے تھے تو قیامت کی ایک بت بڑی علامت تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرماتے تھے، کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ آخری دور میں تبی کریم سرور علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔

(آخرجه ان ای حاتم عن الحسن رضی اللہ عنہ قوله: "قد جاء اشراطها" قال: محمد صلی الله علیہ وسلم عن اشراطها۔ تفسیر الدالمنثور للسيوطی، آیت: نهل ینظرون الا الساعة ج ۲۱ ص ۵۰)

### ایک اشکال کا جواب

اب لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ پودہ سو سل تو حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے اب تک تو قیامت آئی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ساری دنیا کی عمر کے لحاظ سے اگر دیکھو گے، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، اس کا لحاظ کر کے اگر دیکھو گے تو ہزار دو ہزار سال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی لئے آپ نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، وہ قیامت بت قریب آنے والی ہے۔

### ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے

اور ساری دنیا کی بوجموئی قیامت آنے والی ہے، وہ خواہ کتنی ہی دور ہو، لیکن ہر انسان کی قیامت تو قریب ہے، کیونکہ:

من مات فقد قاتم قیامت

(رواہ الدیلمی عن الحسن مرنوعاً بلفظه: اذا مات احدكم فقد قاتم قیامته، المقاصد العسنة للسخاوی - ص ۳۲۸)

جو مر گیا، اور جس کو موت آگئی، اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی، اس واسطے جب

قیامت آنے والی ہے، خواہ وہ مجموعی قیامت ہو، یا انفرادی، اور اس کے بعد خدا جانے کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس لئے میں تم کو ڈر ارہا ہوں کہ وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو، اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ اور اپنے آپ کو عذاب جسم اور عذاب قبر سے بچالو۔

## بہترین کلام اور بہترین طرز زندگی

پھر فرمایا کہ:

فَانْ خَيْرُ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٌ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

اس روئے زمین پر بہترین کلام اور سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے بڑھ کر، اس سے اعلیٰ، اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ بہتر کلام کوئی نہیں۔ اور زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں جتنے طرز زندگی ہیں۔ ان میں سب سے بہترین طرز زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بذرے میں خود فرمائی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے بذرے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس لئے ہے کہ لوگوں کے لئے آپ نمونہ ہوں، زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزارو، اگر زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو، اس واسطے دعوت و تبلیغ کی ضرورت کے تحت ارشاد فرمائی ہے ہیں کہ بہتر طریقہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے چھوڑا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، سونے جانے میں، دوسروں کے ساتھ مغلات کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمادیا، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔

## بدعت بدترین گناہ ہے

پھر آگے جن چیزوں سے گمراہی کے امکانات ہو سکتے تھے، ان کی جزیں ہادیں،

### شر الامور محدثناها وکل بدعة ضلاله

اس روئے زمین پر بدترین کام وہ ہیں جو نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کئے جائیں، حدیث میں ”بدترین کام“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جو ایک لمحاظ سے ظاہری گنہوں سے بھی بدتر ہے، اس لئے کہ ظاہری فتن و فور اور گنہ وہ ہیں کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو گا، وہ ان کو برائجھے گا، کوئی مسلمان اگر کسی گنہ میں بتلا ہے، مثلاً شراب پیتا ہے، بد کاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کام تمہارے خیل میں کیسے ہیں؟ جواب میں یہی کے گایہ کام ہیں تو برے، لیکن میں کیا کروں، میں بتلا ہو گیا۔ لذالان برائیوں کو کرنے والا برائجھے گا، اور جب برائجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمادیں گے۔

لیکن بدعت، یعنی جو چیز دین میں نئی ایجاد کی گئی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ حقیقت میں تو وہ گنہ ہوتی ہے، لیکن جو شخص اس بدعت کو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو برائی سمجھتا، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ توبت اپنامیں ہے، اور دوسرا کوئی اگر اس سے یہ کے کہ یہ بری بات ہے تو بحث کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کہ اس میں کیا خرابی اور کیا حرج ہے۔ اور جب ایک شخص گنہ کو گنہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہی میں اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے، اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”شر الامور“ جس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے بڑے کام ہیں ان میں سب سے بدتر کام بدعت ہے، جو دین میں ایسا نیا طریقہ ایجاد کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے سے مختلف ہو، اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بتادی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لذاجو شخص کسی بدعت کے اندر بتلا ہے، وہ لازماً گمراہی کے اندر بتلا ہے۔

### بدعت، اعتقادی گمراہی ہے

ایک ہوتی ہے عملی کوتاہی، یعنی ایک شخص کسی عملی کوتاہی کے اندر بتلا ہے، اس

سے غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اور ایک ہوتی ہے اعتقادی گمراہی کر کوئی شخص کسی ناقص بات کو حق سمجھ رہا ہے، اور گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہے، کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے، پہلی چیز یعنی عملی کوتاہی کا مدار اتو آسان ہے، کہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا، تو معاف ہو جائے گی، لیکن جو شخص گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہو، اس کی ہدایت بت مسئلک ہے، اسی لئے آپ نے فرمایا کہ بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے، اسی لئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بدعت سے اتنا بچا گئے تھے کہ کوئی حد نہیں۔

### بدعت کی سب سے بڑی خرابی

بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے، حالانکہ دین کا موجد کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جو دین بنایا وہ ہمارے لئے قابل اتباع ہے لیکن بدعت کرنے والا خود دین کا موجد بن جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دین کا راستہ میں بنا رہا ہوں، اور در پرداہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو میں کہوں وہ دین ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو راستہ بنایا، اور جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عمل کیا۔ میں ان سے بڑھ کر دیندار ہوں، میں دین کو ان سے زیادہ جانتا ہوں، تو یہ شریعت کی اتباع نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہش نفس کی اتباع ہے۔

### دنیا میں بھی خسلہ اور آخرت میں بھی خسلہ

ہندو نہب میں کتنے لوگ گنجائے کنڈے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایسی ایسی ریاضتیں اور ایسی ایسی محنتیں کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر انسن جیران ہو جاتا ہے، کوئی آدمی اپنا ہاتھ بلند کر کے ساماسال تک اسی طرح کھڑا ہے، ہاتھ خچے بھی نہیں کرتا۔ کسی آدمی نے سافس کھینچا ہوا ہے، اور گھنٹوں تک سافس نہیں لے رہا ہے، اور جس دم کر رہا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ جواب دے گا کہ یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اب چاہے وہ اللہ کو بھگوان کا ہم دے یا کچھ اور کہے، لیکن بتائیے اس کے اس عمل کی کوئی قیمت ہے؟ حالانکہ اس کی نیت بظاہر

درست معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، اس لئے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ اس نے اپنے دل اور دماغ سے گھر لیا ہے۔ اس واسطے اللہ کے یہاں اس کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ ایسے اعمال کے بدلے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَقَدْ مَنَّا لَنَا مَا عَمَلْنَا وَمَنْ نَهَىٰ عَنِ الْفُعُولِ

(سورة الفرقان: ۲۳)

جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں، ہم ان کے عمل کو اس طرح اڑادیتے ہیں جیسے ہو ایں اٹالی ہوئی مٹی اور گرد و غبار۔ عمل کیا لیکن اکارت گیا۔ محنت بھی کی لیکن بیکار گئی۔ اور دوسری: جگہ پر کتنے پیارے اور شفقت بھرے انداز سے قرآن کریم نے فرمایا:

قُلْ هُلَّ نَبْشِكُمْ بِالْأَخْسَرِ يَنْ أَعْمَالُ الظَّالِمِ مُنْلَّ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ

الْدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صَنْعًا

(سورة الکھف: ۱۰۳)

قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں! کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خلادے میں کون لوگ ہیں؟ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل اس دنیا میں اکارت ہو گیا۔ اور دل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس لئے خلادے میں ہیں کہ جو فاسق و فاجر تھا، یا جو کافر تھا۔ اس نے کم از کم دنیا میں عیش کر لئے، آخرت اگرچہ بتاہ ہوئی، لیکن دنیا میں تو عیش کر گیا، اور یہ شخص تو اپنی دنیا کے عیش و آرام بھی خراب کر رہا ہے، اور محنت اٹھا رہا ہے، اور آخرت بھی بگاڑا رہا ہے، اس واسطے کہ اس نے عبادت کا وہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔

اسی لئے بدعت کے بدلے میں فرمایا "شر الامور" سارے کاموں میں بدترین کام بدعت ہے، اس لئے کہ آدمی محنت تو کرتا ہے، لیکن حاصل کچھ نہیں۔

دین نام ہے اتباع کا

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ بات بخادے کر

دین اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ابیاع کا نام ہے، اپنی طرف سے کوئی بات گھرنے کا نام دین نہیں ہے، میری زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ابیاع اور ابنداع، ابیاع کے معنی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرنا۔ اور ابنداع کے معنی ہیں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے اس کے پیچے چل پڑنا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا جو خطبہ دیا۔ اس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ:

### انی متبع و لست بمبدع

(طبقات ابن سعد، جلد ٹالث ص ۱۸۳)

میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا تبع ہوں، مبدع نہیں۔ یعنی کوئی نیاراستہ ایجاد کرنے والا نہیں ہوں، لہذا ساری قیمت اللہ کے حکم کے آگے سرجھانا کی ہے، اپنی طرف سے جو بات کی جائے اس کا کوئی وزن کوئی قدر و قیمت نہیں۔

### ایک عجیب واقعہ

ایک واقعہ آپ نے کہشت سنا ہو گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کے وقت مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حلات دیکھنے کے لئے نکلتے تھے، کہ کون کیا کر رہا ہے، ایک مرتبہ تجد کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ نمایت آہست آواز سے تجد کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، آگے جا کر دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تجد پڑھ رہے تھے، اور اس میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کی تلاوت کی آواز باہر تک سائل دنے رہی تھی، خیر، آپ یہ دیکھتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔

بعد میں آپ نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں کو اپنے پاس بلایا، اور پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں رات کو تجد کے وقت تمہارے پاس سے گزراؤ تم بت آہست آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ

اتی آہست آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟  
 اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد  
 فرمایا کہ:

اسمحت من ناجیت

یار رسول اللہ! جس ذات سے میں مناجات کر رہا تھا، جس سے تعلق قائم کیا تھا، جس  
 ذات کو میں سنانا چاہتا تھا، اس کو تو سناؤ یا اب آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے  
 میں آہست تلاوت کر رہا تھا۔

پھر حضرت قادرؑ اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم زور زور سے تلاوت کر  
 رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ انسوں نے جواب میں فرمایا کہ:

اُف اوقظ الوستان واطر د الشیطان

میں زور سے اس لئے تلاوت کر رہا تھا مگر جو لوگ پڑے سور ہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں،  
 اور شیطان بھاگ جائے، اس لئے جتنی زور سے تلاوت کروں گا، شیطان بھاگے گا، اس  
 لئے میں زور سے تلاوت کر رہا تھا۔

اب ذرا دیکھنے کے دونوں کی بائیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ  
 عنہ کی بات بھی صحیح کہ میں تو اللہ میل کو سنارہا ہوں، کسی دوسرے کو سنانے کی کیا  
 ضرورت؟ اور قادرؑ اعظم رضی اللہ عنہ کی بات بھی درست کہ میں سونے والوں کو جگارہ  
 تھا، شیطان کو بھگارہا تھا، لیکن اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں  
 سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو بکر! تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ  
 بت آہست تلاوت کرنی چاہئے، اور اے قادر! تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا  
 کہ زور سے تلاوت کرنی چاہئے، لیکن تم دونوں نے چونکہ اپنی اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار  
 کیا تھا، اس لئے یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہ زیادہ زور سے  
 تلاوت کرو، اور نہ زیادہ آہستہ تلاوت کرو، بلکہ معتدل آواز سے تلاوت کرو، اسی میں  
 زیادہ نور اور برکت ہے، اور اسی میں زیادہ فائدہ ہے، اس کو اختیار کرو۔

(ابوداؤد، کتب الصلاة۔ بلب رفع الصوت بالقرآن ملأة الليل۔ حدیث نمبر (۱۳۲۹))

معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر اپنی طرف سے کوئی راستہ اختیار کر لیتا، اللہ تعالیٰ

کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ پسندیدہ ہے، بس، جو راستہ ہم نے بتایا ہے وہ راستہ اختیل کرو، اس میں جو نور اور فائدہ ہے وہ کسی اور میں نہیں۔

دین کی سلسلی روح یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے، اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھر لیتا درست نہیں۔

### ایک بزرگ کا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان کیا کہ ان کے قریب کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اور فقیہ اکرام نے لکھا ہے کہ نماز میں ویسے تو آنکھ بند کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو اس کے بغیر خشوع حاصل نہ ہوتا ہو، تو اس کے لئے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ نماز بہت اچھی پڑھتے تھے، تمام ارکان میں سنت کی رعایت کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اور لوگوں میں ان کی نماز مشہور تھی، کیونکہ نہایت خشوع و خضوع اور نہایت عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ بزرگ صاحب کشف بھی تھے، ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ! میں یہ جو نماز پڑھتا ہوں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں میری نماز قبول ہے یا نہیں؟ اور کس درجہ میں قبول ہے؟ اور اس کی صورت کیا ہے؟ وہ مجھے دکھادیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی، اور ایک نہایت حسین و جیل عورت سامنے لائی گئی، جس کے سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء میں نہایت تناسب اور توازن تھا، لیکن اس کی آنکھیں نہیں تھیں، بلکہ انہیں تھیں، اور ان سے کہا گیا کہ یہ ہے تمہاری نماز، ان بزرگ نے پوچھا کہ یا اللہ! یہ اتنے اعلیٰ درجہ کی حسن و جمال والی خاتون ہے، مگر اس کی آنکھیں کمال ہے؟ جواب میں فرمایا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو، وہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو، اس واسطے تمہاری نماز ایک انہی عورت کی شکل میں دکھالی گئی ہے۔

## نماز میں آنکھ بند کرنے کا حکم

یہ واقعہ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے بیان فرمایا، اور حضرت ھمانوی قدس اللہ سرہ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھو، سجدہ کی جگہ پر نگاہ ہوئی چاہئے، یہ ہمارا بتایا ہوا طریقہ ہے، اگرچہ دوسرا طریقہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن سنت کا نور اس میں حاصل نہیں ہو سکتا، اگرچہ فتحاکار ام نے یہ فرمایا کہ اگر نماز میں خیالات بست آتے ہیں، اور خشوع حاصل کرنے کے لئے اور خیالات کو دفع کرنے کے لئے کوئی شخص آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، جائز ہے مگر پھر بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدی عمر بھی کوئی نماز آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھی، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کبھی کوئی نماز آنکھ بند کر کے نہیں پڑھی، اس لئے فرمایا کہ ایسی نماز میں سنت کا نور نہیں ہو گا۔

(لم يكُن من هديه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تغريب عينيه الصلاة، زاد المعاد لابن قيم ج ۱ ص ۷۵ -)

## نماز میں وساوس اور خیالات

اور یہ جو خیال ہو رہا ہے کہ چونکہ نماز میں خیالات و وساوس بست آتے ہیں، اس لئے آنکھ بند کر کے نماز پڑھ لو، تو بھائی، اگر خیالات غیر اختیاری طور پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کوئی موافغہ کوئی پکڑ نہیں، وہ نماز جو آنکھیں کھول کر اتباع سنت میں پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں غیر اختیاری خیالات آرہے ہیں، وہ نماز پھر بھی اس نماز سے لچکی ہے جو آنکھ بند کر کے پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں خیالات بھی نہیں آرہے ہیں، اس لئے کہ وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اداکی جا رہی ہے، اور یہ دوسری نماز اتباع رسول میں نہیں ہے۔

بُنْ، یہ سد اعمالہ اتباع کا ہے، اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھرنے کا نہیں، اسی

کام دین ہے اب ہم نے یہ جو سوچ لیا ہے کہ فلاں عبادت اس طرح ہوگی، اور فلاں عبادت اس طرح ہوگی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول ہے، اس لئے فرمایا کہ ”کل بدعة ضلالۃ“ کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

### بدعت کی صحیح تعریف اور تشریح

ایک بات اور عرض کر دوں، جس کے بارے میں لوگ بکثرت پوچھا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہر نئی بات گمراہی ہے، تو یہ پنکھا بھی گمراہی ہے، یہ ٹوب لائٹ بھی گمراہی ہے۔ یہ بس بھی یہ موڑ بھی گمراہی ہے، اس لئے کہ یہ چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں، ان کے استعمال کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟

خوب سمجھ بیجے، اللہ تعالیٰ نے بدعت کو جو ناجائز اور حرام قرار دیا، یہ وہ بدعت ہے جو دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی جائے، دین کا جزا اور دین کا حصہ بنالیا جائے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، مثلاً یہ کہنا کہ ایصال ثواب اس طرح ہو گا، جس طرح ہم نے بتا دیا یعنی تیرے دن تیج ہو گا، پھر چلم ہو گا، اور جو اس طریقے سے ایصال ثواب نہ کرے وہ مردود ہے۔

### میت کے گھر میں کھانا بنا کر بھیجو

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں صدمہ ہو، تو دوسرا لوگوں کو چاہئے کہ اس کے گھر میں کھانا تیار کر کے بھیجن، حضرت جعفر بن الی طالب رضی اللہ عنہ غزوہ موت کے موقع پر شہید ہوئے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروالوں سے فرمایا کہ:

اصنعوا الآل ابْ جعْفَ طَعَاماً فَانَهُ قَدْ أَنَاهُمْ اَمْرُ شَغَلَهُمْ  
(ابو داؤد، کتاب الجہن، پاب صنعة الطعام لا حل المیت، حدیث ثبر)

(۳۱۳۲)

جعفر کے گھروالوں کے لئے کھانا بنا کر بھیجو، اس لئے کہ وہ بے چارے مشغول ہیں اور

صد مہ کے اندر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے لئے کھانا بپڑ جس کے گھر صدمہ ہو گیا، تاکہ وہ کھانا پکانے میں مشغول نہ ہو، ان کو صدمہ ہے۔

### آجکل کی اٹی گنگا

آجکل اٹی گنگا یہ بتی ہے کہ جس کے گھر صدمہ ہے، وہ کھاتا تیار کرے، اور نہ صرف یہ کہ کھاتا تیار کرے، بلکہ دعوت کرے، شامیانے لگائے، دیکھیں چڑھائے، اور اگر دعوت میں دے گا تو برادری میں ناک کٹ جائے گی، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ جو یہ چدہ مر گیا ہے، اس کو بھی نہیں بخشنے، اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، مثلاً یہ کہا جاتا کہ:

مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود

اگر مرنے والے کے گھر میں دعوت نہ ہوئی تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی، معاشر اللہ، اور پھر وہ دعوت بھی مرنے والے کے ترکے سے ہوگی، جس میں اب سدلے ورثاء کا حق ہو گیا، ان میں نابالغ بھی ہوتے ہیں، اور نابالغ کے مال کو ذرہ برابر چھوٹا شرعاً حرام ہے، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر غلاف ہے، پھر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو شخص یہ سب نہ کرے وہ مردود ہے۔

### دین کا حصہ بنانا بدعت ہے

لذادین کا حصہ بنا کر، لازم اور ضروری قرار دے کر دین میں کوئی چیز ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے، ہاں! اگر کوئی چیز دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ کسی نے اپنے استعمال اور آرام کے لئے کوئی چیز اختیار کر لی، مثلاً ہوا حاصل کرنے کے لئے پنچھا بنا لیا، روشنی حاصل کرنے کے لئے بجلی استعمال کر لی، سفر کرنے کے لئے کار استعمال کر لی، یہ کوئی بدعت نہیں، کیونکہ دنیا کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ مباحثات کے واڑے میں رہتے ہوئے جو چاہو کرو، لیکن دین کا حصہ بنا کر، یا کسی غیر مستحب کو مستحب قرار دے کر، یا کسی غیر سنت کو سنت کر کر، یا کسی غیر واجب کو واجب کر کر جب کوئی چیز ایجاد کی جائے گی تو وہ بدعت ہو گی، اور حرام ہو گی۔

## حضرت عبد اللہ بن عمر کا بدعت سے بھاگنا

حضرات محلیہ کرام بدعت سے انتار درجہ کا پرہیز کرتے تھے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے، اذان ہو گئی، ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ اس موزان نے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے آواز دے دی کہ "الصلوة جامعۃ" کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، آجلو، اور ایک مرتبہ شاید "حی علی الصلاۃ" بھی دوبارہ کہہ دیا، مگر جو لوگ اب تک نہیں آئے ہیں، وہ جلدی ہے آجائیں، جب حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو فوراً اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ:

الخرج بتامن عند هذه المبتدع

(سنن ترمذی، ابواب الصلاۃ، باب ماجاء فی الشویب فی المفر - حدیث نمبر ۱۹۸)

مجھے اس بدعت کے پاس سے نکلو، اس لئے کہ یہ خفی بدعت کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوازان کا طریقہ بتایا تھا وہ تو ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور وہ ہو چکی، دوبارہ اعلان کرتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ بدعت ہے، لذا مجھے اس مسجد سے نکلو، میں جا رہا ہوں۔

قیامت اور بدعت دونوں ڈرنے کی چیزیں ہیں

لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر جمال اپنی امت کو اس بات سے ڈرار ہے ہیں کہ ایک لشکر صبح یا شام کے وقت تم پر جملہ آور ہونے والا ہے، وہاں ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی گراہیوں سے بچانے کے لئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ: بدترین چیزیں وہ ہیں جو انسانوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں، اور ان کو دین کا حصہ بتا دیا ہے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وہ طریقہ نہیں بتایا۔ اس سے پرہیز کرو، ورنہ وہ تمہیں گراہی کی طرف لے جائے گی۔

ہمارے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ کون؟

پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ:

اَنَا اُولیٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَفْسِهِ

میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں، یعنی انسان خود اپنی جان کا اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکا جتنا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جیسے باپ اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے کہ اپنے اور پر مشقت جھیل لے گا، محنت اخالے گا، لیکن اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اس لئے آپ نے فرمایا میں تمہارے لئے تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں، وہ کوئی اپنے مقادر کے خاطر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تمہارے فائدے کے لئے کہہ رہا ہوں اس لئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں یہ قوم گمراہی میں بٹتا ہو کر اپنے کو جنم کا مستحق نہ بنائے، آگے فرمایا کہ:

مَنْ تُرَكَ مَالًا فَلَا هَلَهُ، وَمَنْ تُرَكَ دِيَنًا فَلَا يَعْلَمُ.

یعنی آخرت میں تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں ہی، دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ مل بطور ترک کے چھوڑ کر گیا ہے، تو وہ میراث اس کے گھر والوں کے لئے ہے، شریعت کے مطابق وہ میراث آپس میں تقسیم کر لیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اور پر قرضہ چھوڑ کر گیا ہے، اور ترک میں انتہا مل نہیں ہے کہ اس سے قرضہ ادا کیا جاسکے، یا اسی اولاد چھوڑ گیا، جس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو وہ قرضے اور وہ اولاد میرے پاس لے آؤ، میں زندگی بھر ان کی کفالت کروں گا، یہ سب اس لئے فرمایا تاکہ یہ لیکن ہو جائے کہ مجھے تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے، تمہارا وہی پیر مطلوب نہیں ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں کرس پکڑ پکڑ کر جنم سے روکنا چاہتا ہوں، اور تم اس میں گرے جا رہے ہو، اور میں تمہیں بچا رہا ہوں کہ خدا کے لئے ان گنہوں سے رک جاؤ، خدا کے لئے ان بد عتوں سے باز آ جاؤ، تاکہ اس عذاب جنم سے نجات پا جاؤ۔

(فَإِنَّمَا أَخْذُ بِحِزْبِكُمْ مِنَ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَتَعَجَّلُونَ فِيهَا، صحيح بخاری، کتاب الرقاق، باب الانتهاء عن العاصي، حدیث نمبر ۶۳۸۳)

**صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب کہاں سے آیا؟**

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں تھیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السلام کی زندگی میں انقلاب برپا کیا، اور ایسی تبدیلیاں لائیں کہ ایک ایک

صحابہ کمال سے کمال پہنچ گیا۔ جب بات دل سے نکلتی تھی، دل پر اثر کرتی تھی، اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے نے لوگوں کی زندگیں بدل دیں، آج ہم گھنٹوں تقریر کرتے ہیں، گھنٹوں دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی اور انقلاب نہیں آتا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس لئے کہ بسا اوقات کہنے والا خود اس پر کار بند نہیں ہوتا، اور ہمارے دل میں وہ جذبہ اور درد نہیں، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا، آج بھی جتنا اثر برہ راست کتاب اللہ کے کلمات میں ہے، اور برہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ہے کتنی لمحے دار تقریریں کرو، اس میں وہ اثر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

### بدعت کیا ہے؟

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنة اور ایک بدعت سیر، یعنی بعض کام بدعت تو ہوتے ہیں، لیکن اچھے ہوتے ہیں۔ اور بعض کام بدعت بھی ہیں اور برسے بھی ہیں۔ لذا اگر کوئی اچھا کام شروع کیا جائے تو اس کو بدعت حسنة کہا جائے گا، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

### بدعت کے لغوی معنی

خوب سمجھ لجئے کہ بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، جتنی بدعتیں ہیں، وہ سب بری ہیں، اصل بات یہ ہے کہ بدعت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی، اور ایک اصطلاحی، اگر آپ لغت اور ڈکشنری میں بدعت کے معنی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لغت میں اس کے معنی نئی چیز کے ہیں، لذا جو بھی نئی چیز ہے اس کو لغوی اعتبار سے بدعت کہہ سکتے ہیں، مثلاً یہ پنچا، یہ بیکھا، یہ ٹرین اور ہوائی جہاز وغیرہ لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے سب بدعت ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہمارے دور کی ہی پیداوار ہیں مسلمانوں کے اولین دور میں ان کا وجود نہ تھا یہ سب نئی چیزیں ہیں۔

لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے، بلکہ بدعت کے معنی

یہ ہیں کہ دین میں کوئی نیا طریقہ نہ لانا، اور اس طریقہ کو از خود مستحب یا لازم یا مسنون قرار دنا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفار اشدین نے مسنون قرار نہیں دیا، اس کو بدعت کہیں گے، اس اصطلاحی معنی کے لحاظ سے جن چیزوں کو بدعت کہا گیا ہے ان میں سے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ اور ایسی کوئی بدعت "حسنہ" نہیں ہے بلکہ ہر بدعت پر گیا ہی ہے۔

## شریعت کی دی ہوئی آزادی کو کسی قید کا پابند بنانا جائز نہیں

البتہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مبلغ قرار دی ہیں۔ یا کچھ چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اور اجر و ثواب کا موجب تو قرار دی ہیں۔ لیکن ان چیزوں میں شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اس طرح کرو گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اور اس طرح کرو گے تو ثواب کم ملے گا، ایسے کاموں کو جس طریقے سے بھی انجمام دے لیا جائے وہ موجب ثواب ہوتا ہے۔

## ایصال ثواب کا طریقہ

مثلاً کسی مردہ کو ایصال ثواب کرتا بڑی فضیلت کی چیز ہے، جو شخص کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کرے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، ایک اس عمل کے کرنے کا ثواب، اور دوسرے ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ثواب، لیکن شریعت نے ایصال ثواب کے لئے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا کہ ایصال ثواب صرف قرآن شریف پڑھ کر ہی کرو، یا صدقہ کر کے کرو، یا نماز پڑھ کر کرو، بلکہ جس وقت جس نیک کام کی توفیق ہو جائے اس نیک کام کا ایصال ثواب جائز ہے، تلاوت کلام پاک کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقہ کا بھی کر سکتے ہیں۔ نفلی نماز پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ذکر و تسبیح کا بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کتاب لکھی ہے، اور کوئی تصنیف و تایف کی ہے، اس کا بھی ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے، اگر کوئی وعظ و نصیحت کی ہے تو اس کا بھی ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے، غرض یہ کہ جتنے بھی نیک کام ہیں، سب کا ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے، اور اسی طرح شریعت نے ایصال ثواب کے لئے کوئی دن مقرر

نہیں کیا کہ فلاں دن کرو، اور فلاں دن نہ کرو، بلکہ جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد جس وقت چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، چاہے پسلے دن کرے، چاہے دوسرے دن کرے، چاہے تیرے دن کرے، جب چاہے کرے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص ایصال ثواب کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔

### کتاب تصنیف کر کے اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں

مثلاً میں نے عام مسلموں کے فائدے کے لئے ایک کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے کا مقصد تبلیغ و دعوت ہے، اور کتاب لکھنے کے بعد دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! کتاب لکھنے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دیجئے۔ تو یہ ایصال ثواب درست ہے، حالانکہ کتاب لکھ کر ایصال ثواب کرنے کا عمل نہ تو کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ کرام نے کیا، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں، لیکن آپ نے ایصال ثواب کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، لہذا یہ جو میں ایصال ثواب کر رہا ہوں یہ بدعت نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کتاب لکھ کر ایصال ثواب کرنے کا طریقہ دوسرے طریقوں سے افضل اور برتر ہے، اور یہی طریقہ سنت ہے، اس صورت میں میرا یہی عمل جو موجب اجر و ثواب تھا، بدعت ہو جائے گا، اس لئے کہ میں نے اپنی طرف سے دین میں ایک ایسی چیز داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں تھی۔

### تیرا دن لازم کر لینا بدعت ہے

اسی طرح ہر دن ایصال ثواب کرنا جائز تھا، پسلے دن بھی، دوسرے دن بھی اور تیرے دن بھی، فرض کرو کہ ایک شخص تیرے دن گھر پر بیٹھے ایصال ثواب کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تیرا دن خاص طور پر ایصال ثواب کے لئے مقرر ہے، اور اس تیرے دن میں ایصال ثواب کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، یا یہ سنت ہے، یا یہ کہے کہ اگر کوئی شخص تیرے دن ایصال

ثواب نہیں کرے گا تو اس کو ناؤاققوں کی لعنت و ملامت کا شکار ہونا پڑے گا، اب یہ ایصالِ ثواب بدعت ہو جائے گا، اس لئے کہ اس عمل کو اپنی طرف سے ایک خاص دن میں لازم اور ضروری قرار دے دیا۔

### جمعہ کے دن روزہ کی مہماحت فرمادی

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:-

قل ماکارت یفظی يوم الجمعة

(ترمذی، کتب الصوم، باب ماجانی صوم يوم الجمعة، حدیث نمبر ۷۳۲)

یعنی بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ جمعہ کے روز آپ نے روزہ نہ رکھا ہو، بلکہ اکثر جمعہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اسلئے کہ یہ فضیلت <sup>اللہ</sup> دن روزے کے ساتھ گزرے تو اچھا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر رفتہ رفتہ لوگوں نے بھی جمعہ کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا اور جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ اس طرح مخصوص کر دیا جس طرح یہودی لوگ ہفتہ کے دن کو مخصوص کرتے ہیں، اس لئے یہودیوں کے یہاں ہفتہ کے دن روزہ رکھا جاتا تھا، اور ان کے ذہنوں میں ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کی خاص فضیلت اور اہمیت تھی، چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے صحابہ کرام کو منع فرمادیا، اور باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ یہ آپ نے اس لئے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دن کو اللہ تعالیٰ نے روزے کے لئے متین نہیں کیا، لوگ اس کو اپنی طرف سے متین کر دیں، اور وہ عمل دوسروں کی نظر میں ضروری نہ سمجھا جانے لگے، اس لئے آپ نے روزے کے لئے جمعہ کی نہیں کر لیئے سے منع فرمادیا کیونکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضروری اور لازمی نہیں سمجھتے تھے نہ دوسروں کے لئے اس طرح کا کوئی اہتمام والتزام جدی کرنا چاہتے تھے۔

(ترمذی - کتاب الصوم، باب ماجانی کراہیہ صوم يوم الجمعة وحدہ - حدیث نمبر ۷۳۲)

## تیجہ، دسوال، چالیسوائیں کیا ہیں؟

بمرحل! میں یہ جو عرض کر رہا تھا کہ یہ تیجہ، دسوال، بیسوائیں اور چالیسوائیں جائز نہیں ہے، یہ اس لئے کہ لوگوں نے ان دونوں کو ایصالِ ثواب کے لئے مخصوص کر دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایصالِ ثواب کے لئے کوئی دن مخصوص نہ کرے، بلکہ انتقا وہ تیرسے دن ایصالِ ثواب کر لے، تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں، البتہ چونکہ آجکل تیرسے ہی دن کو بعض لوگوں نے لازم سمجھ رکھا ہے اس لئے ان کی مشابت سے بچتے کے لئے بطور خاص تیرسے دن یہ کام نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔

## انگوٹھے چومنا کیوں بدعت ہے؟

آپ نے مسجد سے اذان کی آواز سنی، اور اذان کے اندر جب "اشهدان محمد رسول اللہ" نہ، آپ کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راعیہ پیدا ہوا، اور محبت سے بے اختیار ہو کر آپ نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو بذات خود یہ عمل کوئی گناہ اور بدعت نہیں، اس لئے کہ اس نے یہ عمل بے اختیار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ایک قابل تعریف چیز ہے اور ایمان کی علامت ہے، اور انشاء اللہ اسی محبت پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص سلی دنیا کے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ جب کبھی اذان میں "اشهدان محمد رسول اللہ" پڑھا جائے، تو تم سب اس وقت اپنے انگوٹھوں کو چوما کر واس لئے کہ اس وقت انگوٹھوں کو چومنا مستحب یا سنت ہے اور جو شخص انگوٹھوں کو نہ چوپے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے، تو وہی عمل جو محبت کے جذبے سے بالکل جائز تھا۔ اب بدعت بن گیا۔ اس میں باریک فرق ہے کہ اگر یہ جائز عمل صحیح جذبے سے کیا جا رہا ہے اور اس میں خود ساخت کوئی قید نہیں ہے تو وہ بدعت نہیں ہے۔ اور جب اسی عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یا اس کو سنت سمجھ لیا، اور اگر کوئی دوسرا شخص وہ عمل نہ کرے تو اس کو مطعون کرنا شروع کر دیا۔ بس وہی عمل بدعت بن جائے گا۔

یار رسول اللہ! کہنا کب بدعت ہے؟

میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک شخص کے سامنے کسی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گراہی آیا۔ اور اس کو بے اختیار یہ تصور آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، اور اس نے یہ تصور کر کے کہہ دیا کہ ”الصلوٰۃ والسلام علیک یار رسول اللہ!“ اور حاضر ناظر کا عقیدہ اس کے دل میں نہیں تھا۔ بلکہ جس طرح ایک آدمی غائب چیز کا تصور کر لیتا ہے کہ یہ چیز میرے سامنے موجود ہے، تو اس تصور کرنے میں اور یہ الفاظ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

لیکن اگر کوئی شخص یہ الفاظ اس عقیدے کے ساتھ کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس طرح حاضر و ناظر ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ، اور اگر اس عقیدے کے ساتھ تو نہیں کے، لیکن یہ سوچا کہ ”الصلوٰۃ والسلام علیک یار رسول اللہ“ کہنا سنت ہے، اور اس طرح درود پڑھنا ضروری ہے، اور جو شخص اس طرح یہ الفاظ نہ کہے گویا اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ تو پھر یہی عمل بدعت، خلافت اور گمراہی ہے۔

## عمل کا ذرا سافرق

لہذا عقیدے اور عمل کے ذرا سے فرق سے ایک جائز چیز ناجائز اور بدعت بن جلتی ہے، آپ صحتی بدعتیں دیکھیں گے، ان میں سے اکثر ایک ہیں جو بذات خود مبلغ تھیں اور جائز تھیں، لیکن جب اسے فرض کی طرح لازم کر لیا گیا تو اس سے وہ بدعت بن جائیں۔

عید کے روز گلے ملنا کب بدعت ہے؟

عید کے دن آپ نے عید کی نماز پڑھی، اور عید کی نماز کے بعد دو مسلمان بھائیوں نے خوشی کے جذبے میں آکر آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل لئے، تو اصلًا گلے ملنا کوئی ناجائز فعل نہیں، یا امثال ابھی آپ یہاں مجلس سے اٹھیں، اور کسی سے گلے مل

لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ عید کی نماز کے بعد گلے مانا عید کی سنت ہے، اور یہ بھی عید کی نماز کا حصہ ہے اور جب تک گلے نہیں ملیں گے، اس وقت تک عید نہیں ہوگی، تو یہ عمل اس وقت بدعت بن جائے گا، اس لئے کہ ایک ایسی چیز کو سنت قرار دیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار نہیں دیا، اور صحابہ کرام نے اس کو نہ سنت قرار دیا، اور نہ اس کی پابندی کی، اب اگر کوئی شخص گلے ملنے سے انکار کر دے کہ میں تو نہیں ملتا، اور آپ اس سے کہیں کہ آج عید کا دن ہے، کیوں گلے نہیں ملتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عید کے دن گلے ملنے کو لازمی قرار دے دیا، اور از خود لازمی قرار دے لیتا ہی اس کو بدعت بنا رہتا ہے۔ لیکن ویسے ہی اتفاقی طور پر گلے ملنے کو دل چاہا، اور گلے ملنے تو یہ بذات خود بدعت نہیں ہر حال! کسی بھی مبلغ عمل کو لازم قرار دینے یا اس کو سنت یا واجب قرار دینے سے وہ بدعت بن جاتی ہے۔

### کیا "تبیغی نصاب" پڑھنا بدعت ہے؟

ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ تبلیغی جماعت والے تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں۔ اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں تبلیغی نصاب کون پڑھتا تھا۔ اور خلفاء راشدین کے زمانے میں کون پڑھتا تھا؟ لہذا یہ تبلیغی نصاب پڑھنا بھی بدعت ہو گیا۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے جو تفصیل بیان کی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ علم اور دین کی بات کہنا اور اس کی تبلیغ کرنا ہر وقت اور ہر آن جائز ہے، مثلاً ہم اور آپ جمع کے روز عصر کے بعد یہاں جمع ہوتے ہیں، اور دین کی بات سنتے اور سناتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ خاص طور پر جمع کے روز عصر کے بعد جمع ہوتے ہوں، اور پھر ان کے سامنے دین کی بات کی جاتی ہو، لہذا یہ ہمارا جمع ہونا بھی بدعت ہے، خوب سمجھ لجئے کہ یہ اس لئے بدعت نہیں کہ دین کی تعلیم و تبلیغ ہر وقت اور ہر آن جائز ہے۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ جمع کے دن عصر کے بعد مسجد بیت المکرم ہی میں یہ اجتماع منسون ہے، اور اگر

کوئی شخص اس اجتماع میں شریک نہ ہو تو اس کو تودین کا شوق نہیں ہے، اس کے دل میں دین کی عظمت اور محبت نہیں ہے، اس لئے کہ بیت المکرم میں جمعہ کے دن نہیں آتا۔ تو اس صورت میں یہی اجتماع کا عمل جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، بدعت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب ایک آدمی یہاں آنے کے بجائے کسی دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے۔ اور وہاں جا کر دین کی باتیں سن لیتا ہے، تو وہ بھی ثواب کا کام کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے کہ کہ بیت المکرم ہی میں دین کی باتیں سننے کے لئے آئے، اور جمعہ کے دن ہی آئے، اور عصر کے بعد ہی آئے، اور بیان بھی فلاں شخص ہی کا ہو تو اس صورت میں یہی عمل بدعت بن جائے گا۔

اسی طرح لوگ تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں اور دینی اعمال کی فضیلیں سانتے ہیں، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اب اگر کوئی اس کو معین کرے کہ تبلیغی نصاب ہی پڑھنا ضروری ہے، اور یہی سنت ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری کتاب پڑھی جائے تو وہ مقبول نہیں، تو اس صورت میں یہ تبلیغی نصاب پڑھنا بھی بدعت بن جائے گا۔ لہذا کسی بھی عمل مباح کو یا اجر و ثواب والے عمل کو خاص وقت اور خاص حالات کے ساتھ مربوط کر کے لازم قرار دے دیا جائے تو وہی بدعت بنا دیتا ہے۔

### سیرت کے بیان کے لئے خاص طریقہ مقرر کرنا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا کتنے اجر و فضیلت کا کام ہے۔ وہ لمحات جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی بھی حیثیت سے ہو، وہ حاصل زندگی ہے۔

اوقات ہمہ بود کہ بیان بسر کرو

حقیقت میں قابل قدر اوقات تدوہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبدک میں صرف ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے لئے کوئی خاص طریقہ معین کر دے، خاص دن معین کرے۔ یا خاص مجلس معین کرے، اور یہ کے کہ اسی خاص دن اور صورت ہی میں اجر و ثواب محصر ہے تو یہی قیودات اس جائز اور مبدک عمل کو بدعت بنا دیں گی۔

## درود شریف پڑھنا بھی بدعت بن جائے گا

اس کی آسانی سی مثل سمجھتے کہ ہمیں نماز میں انتیجات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کا صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ایک حید مجید، یہ درود شریف پڑھنا حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا اس کو پڑھنا جائز اور مسنون ہے۔ اب اگر کوئی شخص دوسرا درود شریف پڑھے، جس کے الفاظ اس سے مختلف ہوں۔ مثلاً: اللهم صلی علی محمد النبي الای و علی آلہ و صحبہ و بدک وسلم، پڑھنے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، اور درود شریف پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہ کہ وہ درود شریف نہ پڑھو، بلکہ یہ دوسرا والا درود شریف پڑھو اور یہی پڑھنا سنت ہے، تو اس صورت میں درود شریف پڑھنا جو بڑی فضیلت والا عمل تھا۔ بدعت بن جائے گا۔

## دنیا کی کوئی طاقت اس کو سنت نہیں قرار دے سکتی۔

خوب سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے جو بدعت کی نتیجیں نکال لیں ہیں کہ ایک بدعت حسنة ہوتی ہے، اور ایک بدعت سیرہ ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے، اور ایک بُری ہوتی ہے۔ یاد رکھو، بدعت کوئی حسنة نہیں، کوئی بدعت اچھی نہیں، جو طریقہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات خلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ضروری قرار نہیں دیا، اور سنت قرار نہیں دیا، مستحب قرار نہیں دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو واجب، سنت اور مستحب قرار نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ضلالت اور گمراہی ہوگی اس لئے کہ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ صحابہ کرام دین کو اتنا نہیں سمجھتے، جتنا ہم سمجھتے ہیں۔

## خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ بعض نبی چیزوں توجہ ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی شخص دین کا حصہ نہیں سمجھتا، مثلاً یہ عکھا، یہ لائٹ، ٹرین، ہوالی جہاز، وغیرہ۔ یہ چیزوں اس لئے بدعت نہیں ہیں کہ ان کو کوئی بھی دین کا حصہ اور لازم اور ضروری نہیں سمجھتا، اور دین کے جن کاموں کو انجام دینے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا، ان کاموں کو جس طرح چاہیں انجام دے سکتے ہیں، لیکن اگر ان کاموں کے لئے اپنی طرف سے کوئی خاص طریقہ مقرر کر لیا جائے، اور اسی طریقے کو لازم اور ضروری قرار دے دیا جائے تو وہ بدعت بن جائے گا۔ یہ بات اگر ذہن میں رہے تو اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے تمام شہادت دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بدعت سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی صحیح فرم عطا فرمائے۔ آئین۔

فَلَا يَرْدِكُنَّكُلَّ نَا إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## موعظ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ

**قیمت**

**نام کتاب**

۱۰/- =	بخاری پختہ کا شوق
۱۰/- =	سخنات
۱۰/- =	بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثر

## خطبات حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

﴿ ۱ ﴾

۱۰۰/- =	اصلاحتی خطبات جلد اول
۱۰۰/- =	اصلاحتی خطبات جلد ۲
۱۰۰/- =	اصلاحتی خطبات جلد ۳
۱۰۰/- =	اصلاحتی خطبات جلد ۴
۱۰۰/- =	اصلاحتی خطبات جلد ۵
۱۰۰/- =	اصلاحتی خطبات جلد ۶
۱۰۰/- =	اصلاحتی خطبات جلد ۷
۱۰۰/- =	اصلاحتی خطبات جلد ۸
۱۰۰/- =	اصلاحتی خطبات جلد ۹
۱۰۰/- =	اصلاحتی خطبات جلد ۱۰
زیر میٹی	اصلاحتی خطبات جلد ۱۱
زیر میٹی	اصلاحتی خطبات اعلیٰ ایڈیشن
۲۲۰۰/- =	اصلاحتی خطبات انگریزی
زیر میٹی	اصلاحتی چانسل جلد اول
۱۶/- =	آزادی نسوں کا فریب
۱۵/- =	اسلام اور ہدایہ اقتصادی سائنس
۱۶/- =	ولادتی اصلاح و تربیت
۱۳/- =	انسانی حقوق اور اسلام
۱۲/- =	انی طفر کریں
۲۰/- =	اسلام میں مٹھ کی حقیقت
۱۸/- =	آپ ز کوہ کس کمر ج لو کریں
۱۳/- =	اکیپورٹ کے شرعی احکام
جذب	امت مسلم کہاں کھڑی ہے
۱۳/- =	آنکھوں کی خناقت کیتی
۱۳/- =	امیان کاں کی چار علاشیں
۱۳/- =	اسلام میں پورے دا مل ہو جاؤ
۱۲/- =	استکارہ کا سنون طریقہ

﴿ ب - پ - ت ﴾

۱۲/- =	بہت ایک ٹکین گناہ
۲۰/- =	بیدی کے حقوق
۱۵/- =	بڑوں کی اطاعت
۱۲/- =	بھائی بھائی بن جاؤ

۱۰/ =	بیدار کی حیات کے آداب
۱۱/ =	پنگوں سے نگوہ کی دسوی
۱۲/ =	بجٹ و مبارش اور جھوٹ ترک کریں
۱۳/ =	بری حکومت کی شانیاں
۱۴/ =	بیداری اور پریشان ایک نوت
۱۵/ =	پریشانوں کا علاج
۱۶/ =	پینے کے آداب
۱۷/ =	لی ایں ایسیں لکاؤنٹ
۱۸/ =	لعلیم القرآن کی اہمیت
۱۹/ =	توبہ، گناہوں کا تریاق
۲۰/ =	تندیر پر راستی رہیں
۲۱/ =	تلخ و دعوت کے اصول
۲۲/ =	تواضع

## ﴿ ج-ح-خ ﴾

۱۳/ =	جمبوت اور اس کی مردوجہ سورتیں
۱۴/ =	جدید فتحی سائل
۱۵/ =	جهاد، اقدامی یاد نافی
۱۶/ =	جنت کے مناظر
۱۷/ =	حد، ایک علیٰ آں
۱۸/ =	حضور ﷺ کی زریں بصیرتیں
۱۹/ =	حقوق بہرہ کی خرچ و فروخت
۲۰/ =	خواب کی حیثیت
۲۱/ =	ملک خدا سے بہت بکجے

## ﴿ د-ر-ز ﴾

۱۱/ =	دوستی اور دشمنی میں اختلاف
۱۲/ =	دوسرے دن کی چیزوں کا استعمال
۱۳/ =	دین کی حقیقت
۱۴/ =	دل کی بیداریاں
۱۵/ =	دنیا سے دل نہ کاؤ
۱۶/ =	درس فتح بلادی
۱۷/ =	دعوت کے آداب
۱۸/ =	درود شریف ایک اہم حمارت
۱۹/ =	دنی مدارس، دین کی خواہت کے تکے
۲۰/ =	دوسرے دن کو تکلف مت دیجئے
۲۱/ =	دولت قرآن کی تدری و ملکت
۲۲/ =	رزق حلال کی طلب
۲۳/ =	رمضان کی طرح گزاریں
۲۴/ =	روزہ ہم سے کیا مطابق ہے؟
۲۵/ =	روزہ (اگرچہ)
۲۶/ =	رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک

راحت کس طرح حاصل کریں  
زبان کی تفاوت بکھجے

### ﴿ س-ش ﴾

۱۸/ =	سفارش شریعت کی نظر میں
۱۹/ =	سیرت البی
۲۰/ =	ستی کاملاً، جسی
۲۱/ =	سرنے کے آداب
۲۲/ =	ستحد کی تحریر سے بچیں
۲۳/ =	سودی نظام کی خرابیاں
۲۴/ =	سلام اور صافوں کے آداب
۲۵/ =	شہر کے حقوق
۲۶/ =	شب برات کی حقیقت
۲۷/ =	شیر زد کی خوبی و فروخت

### ﴿ ع-غ-ف ﴾

۱۸/ =	علماء کی تہیں سے بچیں
۱۹/ =	عقل کا دائرہ کار
۲۰/ =	فریبون کی تحریر مت بکھجے
۲۱/ =	فہرست کو قابو میں بکھجے
۲۲/ =	تفہیت زبان کا ایک عظیم کتاب
۲۳/ =	تفہیتی مقالات جلد اول
۲۴/ =	تفہیتی مقالات جلد دوم
۲۵/ =	تفہیتی مقالات جلد سوم
۲۶/ =	تفہیتی مقالات اعلیٰ اینڈ شیش
۲۷/ =	قند کے دور کی نشانیاں
۲۸/ =	فلر آخرت

### ﴿ ق-ک-ل ﴾

۱۹/ =	قربانی، حج، مژہہ ذی الحجه
۲۰/ =	قططون پر خوبی و فروخت
۲۱/ =	کمانے کے آداب
۲۲/ =	کیا نیالات آپ کو زبان کرتے ہیں
۲۳/ =	کافنڈی قوت اور کرنٹی کا عالم
۲۴/ =	گناہوں کی لذت ایک دھوکر
۲۵/ =	گناہ گار سے نفرت نہ کریں
۲۶/ =	گناہوں کا معلاق، خوف خدا
۲۷/ =	گناہوں کے نصائحات
۲۸/ =	لباس کے شرمی اصول

### ﴿ م-ن-و-ہ ﴾

۱۰/ =	ہادر جب،
۱۱/ =	محاشی سے کی اصلاح کیے ہو۔
۱۲/ =	منافق کی دو نشانیاں
۱۳/ =	ملاوٹ اور ناپ توں میں کی
۱۴/ =	معاملات یہ بیدہ اور علماء کی زمسد داری

۱۵ / =	مغرب میں دوست
۱۶ / =	مرنے سے پہلے سوت کی تیاری
۱۷ / =	سلان بھائی بھائی
۱۸ / =	محالات صاف رسم
۱۹ / =	مسلمان ہاجر کے فرائض
۲۰ / =	مکرات کو روکو
۲۱ / =	مزان و مذاق کی رعایت
۲۲ / =	شورہ کی اہمیت
۲۳ / =	نک کام میں دیرست سمجھے
۲۴ / =	نقش کی لکھش
۲۵ / =	نعت رسول ﷺ
۲۶ / =	والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ
۲۷ / =	وقت کی قدر کریں
۲۸ / =	دوث کی اسلامی حیثیت
۲۹ / =	ہوس قائمہ نسک کی شرعی حیثیت

## حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سخروی صاحب مدظلہ

۳۰ / =	اسلامی میانات جلد اول
۳۱ / =	اسلامی میانات جلد دوم
۳۲ / =	فتاویٰ رسائل کامل سیت
۳۳ / =	لئی وی اور عذاب قبر
۳۴ / =	چہ گناہ گار حور غشن
۳۵ / =	مرودج قرآن خانی کی شرعی حیثیت
۳۶ / =	نماز کی بعض اہم کوتاہیاں
۳۷ / =	تفہیم درافت کی اہمیت
۳۸ / =	حج فرض میں جلدی سمجھے
۳۹ / =	طلاق کے نصائح
۴۰ / =	بہ ٹکوناں، بد فایاں
۴۱ / =	حضور ﷺ کی سیرت و صورت
۴۲ / =	ترادع کے اہم سال
۴۳ / =	رمضان المبارک کا آخری دن
۴۴ / =	نماز جمعر میں کوتاہی
۴۵ / =	ہمارے تمن گناہ
۴۶ / =	نماز میں ول کی خاصیت سمجھے
۴۷ / =	حلال کی برکت اور حرام کی نبوت
۴۸ / =	بیان اللہ کی رحمت
۴۹ / =	سلالوں کے چار دشمن
۵۰ / =	اللہ کو پیدا رسم
۵۱ / =	سوت کے وقت کی بدعاں
۵۲ / =	شووی کی سخت امروزی کاہم
۵۳ / =	شوویانے کی فضیلت
۵۴ / =	آداب